

منال احقر

اوراد اور حمدی مناجات قبول ایسات می

چیل و سٹ اور ذر و سرف

تالیفات حکیم الامت تھانوی

حضرت حکیم الامت سرف علی تھانوی

ادارہ تالیفات سرف علی تھانوی
نور محمد سرف علی تھانوی آباد 62100

منازلِ سیدہ

مشتل بر
اورادِ رحمانی، مناجاتِ مقبول، آیاتِ مشکوٰۃ
پہل حدیث اور درود شریف

انہ
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

زیر اہتمام
صوفی محمد اقبال قریشی
جناب ٹاؤن نزد مسجد فردوس ہارون آباد 621005

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدًا وَنُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَاءِهِ أَجْمَعِينَ هَامَّا بَعْدُ

تعارف

بعض ناشرین حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب
 تھانوی قدس سرہ کی اکثر تصانیف کو نامکمل صورت میں شائع کر
 رہے ہیں جو قابلِ مدافوس ہے۔ مثلاً اکثر ناشرین نے
 حیوۃ المسلمین کا طویل مقدمہ بالکل حذف کر دیا ہے۔
 اسی طرح اکثر حضرات نے مناجاتِ مقبولے کا مقدمہ
 جس میں دعا کی فضیلت مذکور ہے شائع کرنا چھوڑ دیا ہے۔
 اس لئے ابتداً عرضِ خدمت ہے کہ یہاں صرف مندرجہ ذیل
 منازل کو شائع کیا جا رہا ہے جن کی تلاوت معمول بہ ہے یا
 اہل ذوق حضرات ان کی تلاوت کا معمول بنا کر آخرت کا بلہ
 انتہا ثواب لگا سکتے ہیں۔

۱۔ اورادِ رحمانی میں حضرت حکیم الامت نے روزانہ کا
 معمول بنانے کے لئے تسبیح، تحمید اور تکبیر کی سات
 احزاب میں جمع کی ہیں۔ ہم نے ان کا ترجمہ بیان القرآن
 سے نقل کر دیا ہے۔ ان احزاب کی تلاوت کے وقت

سجدہ تلاوت آئے وہ بھی کر لیا جائے۔

۲ — مناجات مقبول کی سات منزلیں مع ترجمہ درج ہیں
ہر منزل کی تلاوت سے قبل خطبہ اور آخر میں خاتمہ
منزل پڑھنا چاہیے۔

۳ — دعائیہ ابیات مثنوی مولانا روم کا ترجمہ کلید مثنوی
وغیرہ سے نقل کر دیا ہے تاکہ فارسی نہ جاننے والے
اسے پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے
چار اشعار کا ترجمہ احقر کی درخواست پر حکیم محمد اختر
صاحب کلیم اکراچی نے فرمایا۔

جزاہو اللہ تعالیٰ خیر

۴ — آخر میں زاد السعید سے پہلی حدیث درود شریف نقل کی
گئی ہے۔ یہ درود شریف وہ ہے جو احادیث میں آئے
ہیں۔ ان کی اسانید زاد السعید میں مذکور ہے۔ ان
درود شریف کو روزانہ یا کم از کم ہر جمعہ ضرور پڑھ
لینا چاہیے۔

اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین
نیک دعاؤں کا از حد محتاج

بندہ محمد اقبال قریشی غفرلہ

۱۸ شعبان المعظم ۱۴۱۵ھ



حزبِ اول روزِ شنبہ (ہفتہ)

ایڈمن

محمد طلحہ نذیر

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ اللَّهِ (البقرہ آیت ۱۱۵)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ (کیا مثل بات ہے)

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء آیت ۳۲)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (النساء آیت ۱۷۱)

وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا

وَيَجْعَلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (الانعام آیت ۱)

اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔

وَنَحَرَفُؤَالَہٗ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

اور خدا نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند

سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (الانعام آیت ۱۰۰)

تراش رکھی ہیں وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبہ آیت ۳۱)

جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ ط (التوبہ آیت ۷۲)

اور اللہ کی رضامندی (سب نعمتوں سے) بڑی چیز ہے۔

سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُونَ ۝ (یونس آیت ۱۸)

وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَہٗ ۙ

وہ کہتے ہیں نفوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ (کیسی بات کہی)

هُوَ الْفَتٰی ۙ (یونس آیت ۶۸)

وہ تو کسی کا محتاج نہیں

اَلِیَّ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا ۙ

اللہ تعالیٰ کا حکم آپہنچا سو تم اس میں جلدی مت مچاؤ

سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُونَ ۝ (النحل آیت ۱)

وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

وَجَعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَہٗ

اور اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ

وَلَهُمْ مَا یَشْتَهُوْنَ ۙ (النحل آیت ۵۷)

اور اپنے لئے چاہتی چیز یعنی بیٹے

هَلْ یَسْتَوْنَ ۙ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۙ بَلْ

کیا اس قسم کے شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں

اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۙ (النحل آیت ۷۵)

بلکہ ان میں اکثر (بوجہ عدم تدبیر) جانتے ہی نہیں

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (بنی اسرائیل آیت ۱)

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (بنی اسرائیل آیت ۲۳)

یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت زیادہ برتر ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندہ پر یہ کتاب نازل

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. (الکہف آیت ۱)

فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ط (سورہ مریم آیت ۳۵)

اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد اختیار کرے وہ بالکل پاک ہے

فَسُبِّحْنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ ط (الانبیاء آیت ۲۲)

اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَ ط

اور یہ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھی ہے

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ط (الانبیاء آیت ۲۷)

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں باعزاز

لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ط

حمد و ثناء کے لائق دنیا اور آخرت میں ہی ہے

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (قصص آیت ۷۰)

اور حکومت بھی اسی کی ہوگی اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝ (المنکب آیت ۲۵)

اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا ۝ (الروم آیت ۱۸)

اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے اور بعد زوال

هَلْ مِنْ شُرَكَاءِ كُمْ تَمَنَّوْنَ ۝ (الزمر آیت ۱۶)

کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں سے کچھ بھی

شَيْءٌ يُّسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۝ (الروم آیت ۲۰)

کر سکے وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

تمام تر حمد و ثناء اس اللہ کو سزاوار ہے جس کی ملک میں جو کچھ آسمانوں میں،

الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيمُ

اور جو کچھ زمینوں میں اور اسی کی حمد و ثناء آخرت میں بھی سزاوار ہے اور وہ

الْحَبِيرُ ۝ (النبأ آیت ۱)

حکمت والا خبردار ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ (الباآیت ۲۳)

اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تمام حمد (اسی) اللہ کو لائق ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا

جَبَلِ الْمَلَكَةِ رُسُلًا أُولَتْ أَبْنِيَّةً

ہے جو فرشتوں کو پیغام رسان بنانے والا ہے جن کے

ثَنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۝ (فاطر آیت ۱)

دو دو اور تین تین اور چار چار پر دار بازو ہیں۔

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل سمتوں کو پیدا کیا ہے

مِمَّا تُنَبِّئُ الْأَرْضُ وَمِنَ الْأَنْفُسِ

نایاب زمین کی قبیل سے بھی اور ان آدمیوں میں سے

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ (یس آیت ۳۶)

اور ان چیزوں سے جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

اور تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (یس آیت ۸۲)

ہے اور تم سب کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (الشُّفَّتْ آيَةٌ ۱۵۹)

اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ ۵

آپ کا رب بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۵ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کیلئے ہیں

رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشُّفَّتْ آيَةٌ ۱۸۰ تا ۱۸۲)

جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزُّمَرُ آيَةٌ ۱۴)

وہ پاک ہے وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے زبردست ہے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاللَّارِضُونَ

اور افسوس ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسے عظمت کرنا

جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ

چاہئے تھی حالانکہ اس کا وہ شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی

مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

قیامت کے دن اور تمام آسمان ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۵ (الزُّمَرُ آيَةٌ ۱۶)

وہ پاک برتر ہے ان کے شرک سے۔

فَأَحْكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝ (المؤمن آیت ۱۲)

یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے رتبہ والا ہے

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

وہی (ازلی) ابدی کا زندہ ہونے والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سوائے مخلص

لَهُ الدِّينَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (المؤمن آیت ۱۵)

اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو تمام خوبیاں اسی اللہ کیلئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

آسمان اور زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ (الزخرف آیت ۸۲)

منتزہ ہے جو یہ مشرک لوگ بیان کرتے ہیں۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ

سوائے تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي

ہے زمین کا اور پروردگار ہے تمام عالم کا اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں اور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (جاثیہ آیت ۳۶-۳۷)

زمین میں اور وہی زبردست حکمت والا ہے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (الحشر آیت ۲۳)

اللہ تعالیٰ جس کی شان یہ ہے لوگوں کے شرک سے پاک ہے

حزب دوم روزیک شنبہ (الوار)

قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ

(توبہ توبہ) میں تو آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں مجھ کو کسی طرح زیبا

مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط (المائدہ - آیت ۱۱۶)

یہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔

فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ

پھر جب افادہ میں ہوئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات بمنزہ

وَ أَنَا أَوْلُ الْكُوفِينَ ۝ (الاعراف - آیت ۱۲۳)

اور بدیع ہے میں آپ کا جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین رکھتا ہوں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَيَ الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ

تمامی حمد و ثنا خدا کیلئے سزاوار ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل

وَ اسْتَحَقَّ ط إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ (ابراہیم - آیت ۳۹)

اور اسحاق دو بیٹے عطا فرمائے حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانبیاء - آیت ۸۷)

(سب تالیف ہے) پاک میں نے شک و تردید وار ہو گیا

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ

پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (المؤمنون آیت ۲۸)

کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کاسر لوگوں سے نجات دی

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

اور ان دونوں نے اپنے شکر کے لئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ

سزاوار ہیں جس نے ہم کو بہت سے ایمان والے بندوں

المؤمنين . (النحل . آیت ۱۵)

پر فضیلت دی .

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ

پھر اگر وہ (اس وقت) تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوں گے

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (التفت)

تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے (آیت ۱۴۳-۱۴۴)

حزب سوم روز دوشنبہ (سوموار)

وَمَنْ نَسَبِحْ بِحَمْدِكَ وَتَقْدِسُ لَكَ . (البقرہ . آیت ۳)

اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمدِ لہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

یقیناً جو (ملائکہ) تیرے رب کے نزدیک (مقرب) وہ اس کی عبادت

وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ وَيَسْتَجُودُونَ لَهُ

سے (جس میں اصل عقائد ہیں) تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں

يَسْجُدُونَ ۝ (الاعراف۔ آیت ۱۷۰)

اور اس کو سجدہ کرتے ہیں

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ

اور زعد (فرشتہ) اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے

مِنْ نِيفْتِهِ ۝ (الرعد۔ آیت ۱۳)

اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے (سبح و تحمید کرتے ہیں)

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ (الانبیاء آیت ۲۰)

شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۝ (البا۔ آیت ۴۱)

وہ عرض کریں گے کہ آپ پاک ہیں ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے

وَمَا مِثَالَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ

اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت

الصَّاقُونَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝ (الصفت۔ آیت ۱۷۵-۱۷۶)

یا عبادت کے وقت ہم صرف سب سے پہلے ہی اللہ ان باتوں سے پاک جو یہ بیان کرتے ہیں

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ

اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ حساب کے اجلاس کے وقت

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ

عرش کے گرد اگرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہونگے اور تمام

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائیگا اور کہا جائیگا کہ ساری خوبیاں اللہ کو نیا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (الزمرہ)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

جو فرشتے کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد اگرد ہیں

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. (المؤمن - آیت ۷)

وہ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں

يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا

وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ

يَسْكُوتُونَ ۝ (حمد السجود آیت ۳۸)

(اس سے ڈرا، نہیں اکتاتے۔

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے کہ ادھر سے بوجھ پڑتا ہے چھٹ

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (الشوریٰ آیت ۵)

پڑھیں اور وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔

حزب چہارم روز سہ شنبہ (منگل)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا

اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ^{۴۳} وَالْاَعْرَافُ آيَةٌ

مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے

دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ

ان کے منہ سے یہ بات نکلی گی کہ سبحان اللہ اور ان کا باہمی

فِيهَا سَلَامٌ وَأُخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ

سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخری بات یہ ہوگی الحمد

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس۔ آیت ۱۰)

لله رب العالمین

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

یہ اس روز ہوگا اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا اور اس کی حمد کرتے ہوئے حکم

وَتَقُطُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (نبی اسرائیل۔ آیت ۵۳)

کی تعمیل کر لو گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ

اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ بھانجا

وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ

اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا کہ ہم جنت میں

حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. (الزمر آیت ۷۴)

جہاں چاہیں مقام کریں عزم عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے

حزب پنجم روز چہار شنبہ (بدھ)

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں

وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تشریف کے

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط

ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (نہج اسرائیل، آیت ۲۲)

کرنے کو سمجھتے نہیں ہو وہ بڑا حلیم ہے بڑا غفور ہے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّيْرَ

اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کیا

وَكُنَّا فَاعِلِينَ . (الانبیاء۔ آیت ۷۹)

کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور کرنے والے ہم تھے ۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ

اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب

وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ

جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں اور بالخصوص پرندے جو پر

صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا

پھیلائے ہوئے ہیں (اڑتے پھرتے ہیں) سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے

يَفْعَلُونَ ه (النور۔ آیت ۲۱)

اللہ تعالیٰ کو ان سب کے افعال کا پورا علم ہے ۔

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَتْ يَنْدُبُنَا لَنَا أَنْ

وہ (معبودین) عرض کریں گے کہ معاذ اللہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم

تَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ (الفرقان۔ آیت ۱۸)

آپ کے سوا اور کارسازوں کو تجویز کریں ۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْعَشِيِّ

ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح

وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ

تسبیح کیا کریں اور اس طرح پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت اٹکے پاس جمع

اَوَابٌ ۵ (ص - آیت ۱۱۹)

ہو جاتے تھے سب ان کی (تسبیح کی) وجہ سے مشغول ذکر رہے۔

سُبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمینے میں ہیں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الحمد آیت ۱)

اور وہ زبردست حکمت والا ہے

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الحشر آیت ۲۴)

اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں (قالا یا حالاً)

الْمَلِكِ الْقَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۵ (المجموعہ آیت ۱)

اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو کہ بادشاہ ہے (معبودوں سے) پاک ہے زبردست حکمت والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط

سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں (قالا وحالاً) بیان کرتی

لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

ہیں اللہ کی پاکی اس کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر

شئی بوقدریر ۵ (التغابن . آیت ۱۱)

شئی پر قادر ہے

حزب ششم روز پینچشنبہ جمعرات

سُبْحَانَكَ فِئْنَا عَذَابِ النَّارِ (آل عمران . آیت ۱۹۱)

ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالے

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ

اور ایسے ہیں جو (گناہوں سے) توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے

السَّائِحُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ

واہلے ہیں (اور) حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے

الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ

(اور) سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بُری باتوں سے

عَنِ الْمُنْكَرِ وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ ط

باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا (یعنی احکام کا) خیال رکھنے والے

وَلَبِشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ط (التوبہ . آیت ۱۱۲)

اور ایسے مؤمنوں کو (جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں) آپ خوشخبری سنا دیجئے

وَلَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ

اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا

وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . (نبی اسرائیل - آیت ۱۰۸)

وعدہ ضرور ہی پورا ہوتا ہے .

فِي بُيُوتِ أَذْنِ الشَّعْرَاتِ تَرْفَعُ وَيَذْكُرُ

وہ ایسے گھروں میں ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے

فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ (النور آیت ۳۶)

اور ان میں اللہ کا نام یا جائے صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں .

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا

پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں

بِهَانَقَرُوا وَسُجِدُوا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُدًى

یاد دلائی جائیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید

لَا يَسْتَكْبِرُونَ سَجِدَةً (السجدہ - آیت ۱۵)

کرنے لگتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے .

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ (ن - آیت ۲۹)

سب کھینٹ لگے ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم قصور وار ہیں

حزب ہفتم بروز جمعہ المبارک

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الفاتحہ - آیت ۱)

سب تعریفیں اللہ ہی کو لائی ہیں جو مرنے والی ہر ہر عالم کے

وَلِتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَكُمُ (البقرہ۔ آیت ۱۸۷)

اور تاکر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ تم کو طریقہ بتلا دیا

وَأَذْكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُ بِالْعِشِيِّ وَالْأُبْحَارِ

اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیجو اور تسبیح کیجودن ٹھلے بھی اور صبح کو بھی (آل عمران۔ آیت ۴۱)

قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ

آپہا کیئے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لئے کون ہے آپہا کیئے کہ میرے

شَهِيدٌ مُّبِينٌ ۚ وَيُنَاكُمُ . (الانعام۔ آیت ۱۹)

اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے

وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (یوسف۔ آیت ۱۰۸)

اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

سو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیئے

مِنَ الشَّجَرِينَ . (حجر۔ آیت ۹۸)

اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیئے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا

آپ خدا دیجئے کہ سبحان اللہ میں بجز اس کے

بَشَرٌ أَرْسَلَنَاهُ (بنی اسرائیل۔ آیت ۹۳)

آدمی ہوں پیغمبر ہوں اور کیا ہوں

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ

اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كِبْرَهُ

مزدوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی

تَكْبِيرًا ۝ (بنی اسرائیل. آیت ۱۱۱)

خوب بڑائیاں بیان کیجئے .

فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح

رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے

وَمِنَ انَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ

اور اوقات شب میں تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (طہ. آیت ۱۳)

تا کہ آپ خوش ہوں .

سُبْحٰنَكَ هٰذَا الْبُرْهٰنُ الْعَظِيْمُ (النور. آیت ۱۴)

معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے .

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي وَرَبُّكَ بِحَمْدِهِ . (الفرقان۔ آیت ۵۸)

اور اس کی لایموت پر توکل رکھیے اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ

آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے سزاوار ہیں اور اس کے ان بندوں

اصْطَفَى . (النمل۔ آیت ۱۵۹)

پر سلام ہو جس کو اس نے فرمایا ہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِيكُمْ أَيَاتِهِ

اور آپ کہہ دیجئے کہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لئے ثابت ہیں وہ

فَتَعْرِفُونَهَا . (النمل۔ آیت ۹۳)

عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھلا دے گا۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . (العنکبوت۔ آیت ۶۳)

آپ کہیے کہ اللہ اللہ بلکہ ان میں سے اکثر سمجھنے بھی نہیں

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح

تُصْبِحُونَ . (الروم۔ آیت ۱۷)

کے وقت

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . (لقمان۔ آیت ۱۸)

آپ کہیے کہ اللہ اللہ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۝ (الاحزاب - آیت ۴۲)

اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (المؤمن آیت ۵۵)

اور شام و صبح اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے

وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي نَسَخَرْنَا

اور یوں کہو اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کا ہمارے

هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ (الاحزاب - آیت ۱۳)

بس میں کر دیا اور ہم ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے

وَتَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۝ (الفتح - آیت ۹)

اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہو آفتاب نکلنے سے پہلے

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

اور چھپنے سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے

وَ أَدْبَارَ السُّجُودِ ۝ (ت - آیت ۳۹ - ۴۰)

اور نمازوں کے بعد بھی

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ

اور اٹھتے وقت اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات میں بھی

فَسَبِّحْهُ وَادْبَارِ النُّجُومِ . (طور . آیت ۲۸-۲۹)

اس کی تسبیح کیجئے اور ستاروں سے پیچھے بھی

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ (واقفہ . آیت ۹۶)

سو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے .

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ . (ن . آیت ۲۸)

کہو میں نے کہا تھا اب تسبیح کیوں نہیں کرتے سب کہنے لگے ہمارا پروردگار

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الحاقلہ . آیت ۵۲)

سو اپنے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے .

وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ . (مدثر . آیت ۳)

اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو .

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (الہمز . آیت ۲۵)

اور کسی قدرات کے حصہ میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تسبیح کیجئے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (الاعلیٰ . آیت ۱)

آپ اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کیجئے .

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ

تو اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے

كَانَ تَوَّابًا ۝ (النمر . آیت ۳)

وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے .



@TaleefatHakeemUlUmmatThanvi

ایڈمن
محمد طلحہ نذیر

ان دعاؤں کے ورد کا نسب طریقہ یہ ہے کہ ہر منزل کے ساتھ اول خطبہ ذیل پڑھیں اور شنبہ سے شروع کر کے ہر روز ایک منزل ترتیب وار پڑھ کر جمعہ کو ختم کریں۔ احقر کو بھی دعائیں یاد رکھیں تو اجساں عظیم ہوگا۔ بندہ

خُطْبَةُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلُوا الرَّسُولَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمَدُكَ يَا فَئِيزَ مَا صُوِّلَ بِذِكْرِكَ وَأَكْرَمَ مَسْئُولٍ بِذِكْرِكَ

حمد کرتے ہیں ہم تیری اے بہتر ان کے جن سے امید کی جائے اور سنی تران کے جن سے سوال کیا جائے

عَلَى مَا عَلَّمْتَنَا مِنَ الْمُنَاجَاةِ الْمَقْبُولِ بِذِكْرِكَ

اس پر کہ سکھائی تو نے ہمیں مناجات مقبول کہ وہ موجب

قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلُوا الرَّسُولَ بِذِكْرِكَ فَصَلِّ

قربت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں اور دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رحمت

عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدُّبُورُ وَالْقَبُولُ بِذِكْرِكَ وَانْشَعَبَتْ

کاملہ بھیج آپ پر جب تک کہ چلے پچھوا اور پورا اور نکلیں

الْفُرُوعُ مِنَ الْأُصُولِ بِذِكْرِكَ نَسْأَلُكَ بِمَا

شاخیں جڑوں سے بعد انہی مانگتے تم سے وہ جو

سَأَلُوكَ بِذِكْرِكَ وَمِنَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ بِذِكْرِكَ

آگے پکتے ہیں اور ہمارا کام سوال ہے اور تیرا کام قبول

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

اللہ بزرگ غالب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الدُّعَاءَ مُمِخُ الْعِبَادَةِ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے

الْمَنْزِلُ الْأَوَّلُ يَوْمَ السَّبْتِ

منزلی اول بروز شنبہ (ہفتہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَنْفِرْ

بھلائی اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے ڈال دے

عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى

ہم پر صبر اور جہا ہمارے قدم اور غالب کر ہم کو

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تَوَاغِدْنَا إِن نَسِينَا

کافر لوگوں پر اے ہمارے رب نہ بکڑ ہم کو اگر بھول جائیں

أَوْ أَنْفَطَانَا رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا

یا چوک جائیں اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری

حَمَلَتْهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

جیسا کہ رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، اے رب ہمارے اور نہ

تَحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَقَدْ

اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہم کو نہیں، اور درگزر کر ہم سے

وَاعْظُرْنَا وَانصُرْنَا وَقَدْ أَنْتَ مَوْلَانَا

اور بخش دے میں اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمارا مالک ہے

فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿بقرہ پانچواں﴾

تُو غالب کر ہم کو کافر لوگوں پر (بقرہ پانچواں)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دل کو بعد ہدایت کرنے کے اور دے

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت، کہ بے شک تو ہی دینے والا ہے

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا

اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں پس بخش دے ہمارے گناہ اور بچا ہم کو

عَذَابِ النَّارِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۙ

دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے تو نے یہ عیش نہیں پیدا کیا

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّكَ

تُو پاک ہے پس بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے اے رب ہمارے تو

مَنْ تَدْفِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا

جسے دوزخ میں ڈالے تو تو نے ضرور اسے رسوا کر دیا اور

لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا

سیاہ کاروں کا کوئی سامعہ نہیں ہے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے

مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ إِسْمُوا بِرَبِّكُمْ

والے کو ایمان کے لئے پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ

فَأَمَّا قُلُوبُنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرَ عَنَّا

سو ہم ایمان لے آئے ہے ہمارے رب اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۚ رَبَّنَا إِنَّا مَا

آمار دے اور ہمارا نیکیوں کے ساتھ خاتمہ کر لے رب ہمارے اوڑھے ہمیں جو

وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا مُسْتَكْبِرِينَ

کہ تو وعدہ کو خلاف نہیں کرتا ہے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی

وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نامرادوں

مِنَ الْخٰسِرِينَ ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا

میں سے جو ہائیں گے ہے رب ہمارے ہم پر

صَبْرًا وَتَوْفِقًا مُسْلِمِينَ ۚ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

صبر ڈال دے اور مسلمان کر کے موت دے تو یہی ہے ہمارا مددگار پس بخش دے ہم کو

وَارْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۚ رَبَّنَا

اور رحم کر ہم پر اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے اے رب ہمارے

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ

نہ کیجیو ہمیں ستم پہننے والا ظالم لوگوں کا

وَ تَجِنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ

اور چھوڑا لے ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے

فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اَنْتَ وَاِلٰهٌ فِي

اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے تو یہی ہے رفیق میرا

الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوْفِئِيْ مُسْلِمًا وَّ الْحَقِيْقِي

دنیا اور آخرت میں اٹھانا مجھ کو مسلمان اور شامل کرنا مجھے

بِالْقِسَابِ ۚ رَبِّ اَجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ

نیکیوں کے ساتھ اے رب میرے کردے مجھے نماز درست رکھنے والا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ كُدُوْرَنَا

اور میری نسل کو بھی، اے رب ہمارے اور میری دعا قبول کرے

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

اے رب ہمارے بخشنا مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۚ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي

کو جس دن حساب قائم ہو، اے رب رحم کر میرے والدین پر جیسا انہوں نے

صَغِيرًا ۚ رَبِّ اُدْفِلْنِي مَدْفِلَ صِدْقٍ

مجھ چھوٹے کو پالا اے رب میرے اندر لے جا مجھے لے جاتا صاف

وَ اُخْرِصْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ

اور نکال مجھے نکالت صاف اور تجویز کر میرے لئے اپنے پاس سے

لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَصِيْرًا ۚ رَبَّنَا اِتِّمٰنًا مِنْ

ایک قوت مدد دینے والی اے رب ہمارے دے ہمیں اپنے پاس

لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۚ

سے ایک رحمت اور سامان کر دے ہمارے لئے کام میں درستی کا

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۚ وَبَسِّرْ لِي اَمْرِي ۚ

اے رب میرے کھول دے سینہ میرا اور آسان کر مجھ پر میرا کام

وَ اَحْلِلْ عُنُقِي ۚ وَ اَنْقِصْ لِي لِسَانِي ۚ وَ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ

اور کھول دے گنجلک میری زبان سے کہ میری بات کو لوگ سمجھ لیں

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۚ اِنِّي مَسْكِيْنٌ الضَّرُّ

اے رب میرے بڑھا مجھے علم میں مجھے لگ گئی ہے بیماری

وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۚ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

اور تو سب سے بڑا مہربان ہے اے رب میرے نہ چھوڑ مجھے اکیلا

وَأَنْتَ نَفِيرُ الْوَرَثِيْنَ ۚ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا

اور تو سب سے اچھا وارث ہے اے رب آمار مجھے مبارک جگہ

مُبَارَكًا وَأَنْتَ نَفِيرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۚ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ

میں اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اے رب میں پناہ چاہتا ہوں

مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ

تیری شیطانوں کی چھیڑ سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری اے رب

يَخْفِرُونَ ۚ رَبَّنَا أَمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، اے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر

وَأَنْتَ نَفِيرُ الرَّحْمِيْنَ ۚ رَبَّنَا اضْرِبْ عَنَّا

اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے، اے رب ہمارے ظالم دے ہم سے

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّكَ عَذَابُ الرَّسَّالِ كَاتِغْرَامًا ۚ

دوزخ کا عذاب، کہ اس کا عذاب گلوگیر ہے

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَالِنَا وَذُرِّيَّتِنَا

اے رب ہمارے دے ہماری بیبیوں اور اولاد کی طرف سے

قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۚ

آنکھوں کی ٹھنڈک اور کر دے ہمیں پرہیزگاروں کی مقتدا

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

اے رب مجھے نصیب کر کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے

أَعْمَلْتُ صَلَاحًا

کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جو

تَرْضَاهُ وَأَدْعِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

تو پسند کرے اور داخل کر دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک

الضَّالِّينَ يَا رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنَ

بندوں میں . اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے

نَصِيرٍ فَقِيرٍ يَا رَبِّ الصُّرُوفِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

محتاج ہوں . اے رب غالب کر مجھے مفسد لوگوں پر

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ

اے رب ہمارے محیط ہوا ہے ہر چیز کو تیرا رحم اور علم تو بخش دے

لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور بچا انہیں دوزخ کے

الْجَحِيمِ يَا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي

عذاب سے . اے رب ہمارے اور داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں جن کا تو

وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو کوئی نیک ہو ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں

وَزُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور ان کی اولاد میں سے کیونکہ تو ہی ہے زبردست حکمت والا

وَقَرِهِمُ السَّيَّاتِ ط وَمَنْ تَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَئِذٍ

اور بچا ان کو خرابیوں سے اور جس کو تو خرابیوں سے اس دن بچائے تو اس

فَقَدَرَحْمَتُهُ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ :

پر تو نے رحم کیا ، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی

وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ط اِنِّي تَبْتُ اِلَيْكَ

اور صلاحیت ہے میری اولاد میں ، میں نے تیری طرف رجوع کیا

وَ اِنِّي مِنَ الْمُسَابِغِينَ ط اِنِّي مَقْلُوبٌ فَاَنْتَصِرُ :

اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں . میں ہارا ہوا ہوں پس تو میرا بدلے لے

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

لے رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے آگے پہنچے

بِالْإِيمَانِ ط وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

ایمان میں اور نہ کہ ہمارے دلوں میں کدورت ایمان والوں کے

أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ :

ساتھ لے رب ہمارے تو بہت مہربان رحم والا ہے

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَ

لے رب ہمارے تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے

وَ اِلَيْكَ الْمَصِيرُ ط رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے لے رب ہمارے نہ کہ ہمیں ستم کش

لَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

کافر لوگوں کا اور بخش دے ہمیں اے رب ہمارے کیونکہ تو ہی ہے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا اسْتَمْنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ

ذہر دمت حکمت والا۔ اے رب ہمارے کامل کر دے ہمارے لئے ہمارا نور

لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور بخش دے ہمیں کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

رَبِّ اعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِطَنٍ وَهَلِ

اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو کوئی میرے گھر میں

بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ط

ایمان دار ہو کر آئے اور تمام ایمان دار مردوں اور عورتوں کو

اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الشَّيْبِ وَالْبَرْدِ

یا اللہ دھو دے گناہ میرے برف اور ازلے کے پانی سے

وَنُورِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ

اور پاک کر دے میرے دل کو گناہوں سے جیسا کہ سفید کپڑا

الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ

میل سے صاف کیا جاتا ہے اور مجھ میں اور میرے گناہوں

خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

میں ایسا فصل کر دے جیسا مشرق اور مغرب میں توڑنے فصل کیا ہے

اللَّهُمَّ اِنِّ نَفْسِي تَقُوها وَزَكَرَتَا اَنْتَ نَصِيرُ

یا اللہ دے میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری اور پاک کر دے اسے تو ہی سب

مَنْ زَكَرَتَا اَنْتَ وَلِيَّتُهَا وَمَوْلَاهَا ۝ اِنَّا

سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی مالک اس کا اور آقا اس کا ہے ہم

نَسْأَلُكَ مِنْ نَصِيرٍ مَا سَأَلَكِ مِنْهُ نَبِيُّكَ

مانگتے ہیں تجھ سے وہ سب بھلائیاں جو مانگی ہیں تجھ سے تیرے

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اِنَّا نَسْأَلُكَ

نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مانگتے ہیں تجھ سے

عَزَائِمُ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ

تیری مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام اور بچا رہنا

مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَغَنِيْمَةً مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ

ہر گناہ سے اور لوٹ ہر نیکی کی اور کامیابی

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۝ اَسْأَلُكَ

پہشت کی اور نجات دوزخ سے میں مانگتا ہوں تجھ سے

عِلْمًا نَافِعًا ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي

علم کار آمد یا اللہ بخش دے میرے گناہ

وَخَطِيئِي وَعَمَدِي ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي غَطِيئَتِي

ناوائتہ و دانستہ یا اللہ بخش دے میری غطا

وَجَبَلِيَّ وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ

و نادانی اور میری زیادتی اپنے بارے میں اور وہ کہ تو

أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ ۖ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِجِدِّي

زیادہ جانتا ہے اسے مجھ سے یا اللہ بخش دے جو گناہ مجھ کو مقصود تھا

وَهَزْلِي ۖ اللَّهُمَّ قَصِّرْ مِنَ الْقُلُوبِ صَرْفٌ

اور جو غیر مقصود تھا لے اللہ پھرنے والے دلوں کے پھیر دل ہمارے

قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ۖ اللَّهُمَّ اهْدِنِي

اپنی طاعت کی طرف یا اللہ مجھ کو ہدایت کر

وَسَدِّدْنِي ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور مجھ کو استوار رکھ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

الرُّمْدَى وَالثَّقْفَى وَالْعَقَافَ وَالْفِنْيَى ۖ

ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ

یا اللہ درست رکھ میرا دین جو میرے حق میں بچاؤ

أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي

ہے اور درست رکھ میری دنیا جس میں میری معاش ہے

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي

اور درست رکھ میری آخرت جہاں مجھے لوٹنا ہے

وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

اور کہ زندگی کو میرے لئے ترقی سے ہر بھلائی میں

وَأَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

اور کہ موت کو میرے لئے چین ہر بُرائی سے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

یا اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور امن دے مجھے اور رزق دے مجھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے

وَالْجُبْنِ وَالسَّرَمِ وَالْمَقْرَمِ وَالْمَأْثِمِ وَ

اور بزدلی سے اور بہت بڑھاپے سے اور ستر من سے اور گناہ سے اور

مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَ

دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور

فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ

قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کے

الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ

بُرائے فتنہ سے اور محتاجی کے بُرائے فتنہ سے اور مسیح

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَوْتِ

دجال کے بُرائے فتنہ سے اور زندگی اور موت

وَالْمَمَاتِ وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْغِيْلَةِ

کے فتنے اور سخت دلی سے اور غفلت سے اور تنگدستی سے

وَالذِّلَّةِ وَالْمُسْكِنَةِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ

اور ذلت سے اور خواری سے اور کفر سے اور فسق سے

وَالشِّقَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَمِنَ

اور خداوندی سے اور سنانے سے اور دکھانے سے اور

الضَّمِيمِ وَالْبُكْمِ وَالْجُبُونِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّئِ

پہرے ہونے سے اور گونگے ہونے سے اور جنون سے اور جذام سے اور بُری

الْإِسْقَامِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَمِنَ الرَّحْمِ وَالْحَزَنِ

بیماریوں سے اور بارشِ رخصت سے اور منکر سے اور غم سے

وَالْبُهْمِلِ وَعَلَبَةِ الرَّيْبَالِ وَمِنْ أَنْ أُرِدَّ

اور بُہمل سے اور لوگوں کے دبا لینے سے اور اس سے کہ ناکارہ

إِلَى أُرْدَى الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ عِلْمٍ

مزید پہنچوں اور دنیا کے فتنے سے اور اس علم سے

لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ

جو نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے

لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا :

جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو مقبول نہ ہو ۔

الْمَنْزِلُ الثَّانِي يَوْمَ الْأَحَدِ

دوسرے منزلے بروز یکشنبہ (اتوار)

رَبِّا أَعْنِي وَلَا تَعِنُّ عَلَيَّ وَالْضَّرِيَّ وَلَا

اے رب مدد کر میری اور میرے مقابلہ میں کسی کی مدد مت کر اور فتح دے مجھے اور میرے

تَنْصُرْ عَلَيَّ وَافْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَ

اوپر کسی کو فتح نہ دے اور تدبیر کر میرے لئے اور میرے اوپر کسی کی تدبیر نہ چلا اور

اهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهَدْيَ لِي وَالْضَّرِيَّ عَلَيَّ

ہدایت کر مجھے اور آسان کر ہدایت کو میرے لئے اور مجھ کو مدد سے اس پر

مَنْ لَبِيَّ عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَرًا لَكَ

جو مجھ پر زیادتی کرے اے رب کر دے مجھے ایسا کہ میں تجھے بہت یاد کیا کروں تیرا

شَكَرًا لَكَ رَهَابًا لَكَ رَطْوًا لَكَ

بہت شکر کیا کرو تجھ سے بہت ڈرا کرو تیری بہت فرما برداری کیا کروں تیرا بہت

مُطِيعًا إِلَيْكَ مُحِبًّا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا ۝

مطیع رہوں تجھ ہی سے سکون پانے والا تیری ہی طرف متوجہ ہونے والا رجوع رہنے والا

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ

اے رب قبول کر میری توبہ اور دھوئے میرے گناہ اور قبول کر

وَدْعَوِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَ

میری دعا اور قائم رکھ میری حجت اور راست رکھ میری زبان اور

أَهْدِ قَلْبِي وَأَسْأَلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي ۝

ہدایت دے میرے دل کو اور نکال دے میرے سینہ کی کدورت

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَادْعِلْنَا

یا اللہ بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر اور راضی ہو جاہم سے اور داخل کر ہمیں

الْجَنَّةَ وَتَجَنَّبْنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا

بہشت میں اور بچا ہمیں دوزخ سے اور درست کر دے ہمارے حال

كَلْمَةً ۝ اللَّهُمَّ الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ

سب یا اللہ الفت دے ہمارے دلوں میں اور اصلاح کر دے ہمارے

بَيْنَنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَتَجَنَّبْنَا مِنَ

باہمی تعلقات کی اور دکھا ہمیں سلامتی کے راستے اور نکال دے ہمیں

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ

اندھیروں سے نور کی طرف اور علیحدہ رکھ ہمیں بے حیائیوں سے

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي

جو ظاہری ہوں اور جو باطنی اور برکت دے ہمیں ہماری

أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأُزُوجِنَا

شنوائیوں میں اور ہماری بینائیوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیبیوں میں

وَوَدْرِيَاتِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

اور ہماری اولاد میں اور توبہ قبول کر ہماری کیونکہ تُوہ ہے توبہ قبول کرنے والا

الرَّحِيمِ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ

مہربان اور کر دے ہمیں اپنے نعمت کا شکر گزار

مُشْتَرِينَ بِمَا قَابَلِينَا وَآمَنَّا بِهَا عَلَيْنَا ۝ اللَّهُمَّ

اور سنا خواں نعمت کے قابل اور پورا کر دے ہم پر اسے یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ

میں مانگتا ہوں تجھ سے ثابت قدمی امر دین میں اور مانگتا ہوں تجھ سے

عَزِيمَةَ الرَّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ

اعلیٰ درجہ کی صلاحیت اور مانگتا ہوں تجھ سے تیری نعمت کا شکر

وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا

اور تیری عبادت کی خوبی اور مانگتا ہوں میں تجھ سے زبان سچی

وَقَلْبًا سَلِيمًا وَفُؤَادًا سَتِيمًا وَأَسْأَلُكَ

اور قلب سلیم اور اخلاق متین اور مانگتا ہوں میں تجھ سے

مِنْ نَقِيرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَفِرُّكَ مِمَّا تَعْلَمُ

وہ بھلائی جس کو تو جانتا ہے اور معافی چاہتا ہوں اس گناہ سے جس کو تو جانتا ہے

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

تو ہی چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے اے اللہ بخش دے جو کچھ

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

پہلے کیا میں نے اور جو کچھ بعد میں کیا اور جو کچھ پوشیدہ کیا اور جو کچھ

أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ۚ

علانیہ کیا اور جو کچھ تو لے زیادہ جانتا ہے مجھ سے

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَحْشِيَّتِكَ مَا تَكُولُ بِهِ

یا اللہ حصہ دے ہمیں اپنے خوف سے اتنا کہ حائل ہو جائے

بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ

ہم میں اور تیرے گناہوں میں اور اپنی عبادت سے اتنا کہ پہنچا دے

مَا يُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُشْرُونَ

تو ہمیں بذریعہ اس کے اپنی جنت میں اور یقین سے اتنا کہ سہل کر دے

بِهِ عَلَيْنَا رَهَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا

اس سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں اور کار آمد رکھ ہماری سنوائیاں

وَالْبَصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ

اور ہماری بینائیاں اور ہماری قوت جب تک ہمیں زندہ رکھے اور کرنا اس کی خیر کو باقی

مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَالضَّرْرَنَا

بعد ہمارے اور ہمارا انتقام لے اس سے جو ہم پر ظلم کرے اور مدد دے ہمیں

عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي

اس پر جو ہم سے دشمنی کرے اور مدت کہ مصیبت ہماری ہمارے

دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْكِبْرَهُمْنَا وَلَا

دین میں اور مدت کہ دنیا کو مقصودِ اعظم ہمارا اور نہ

فَبَلِّغْ عَلِيمَنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ

انتہا ہمارے معلومات کی اور نہ انتہا ہماری رغبت کی اور نہ مسلط کر

عَلَيْنَا مِنْ لَا يُرْحَمُنَا بِ: اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا

ہم پر اس کو جو ہم پر رحم نہ کرے یا اللہ ہمیں زیادہ دے اور مت

تَنْقُصْنَا وَ اَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا وَ اَعْطِنَا وَلَا تَحْمِرْنَا

گھٹا اور آبرو دے ہمیں اور خوار نہ کر اور عطیہ دے ہمیں اور محسوم نہ کر

اِثْرِنَا وَلَا تُؤَثِّرْ عَلَيْنَا وَ اَرْضِنَا وَ اَرْضِنَا عَنَّا:

اور ہمیں بڑھائے رکھ اور اور دن کو ہم پر نہ بڑھا اور ہمیں خوش کر اور ہم سے راضی ہو جا

اَللّٰهُمَّ الرَّحْمٰنِ رُشْدِيْ: اَللّٰهُمَّ قِنِّيْ شَرَّ

یا اللہ دل میں ڈال دے میرے میری صلاحیت یا اللہ محفوظ رکھ مجھے میرے

نَفْسِيْ وَ اَعِزِّمْ لِيْ عَمَلِيْ رُشْدِ اَمْرِيْ: اَسْأَلُ

نفس کی برائی سے اور ہمت دے مجھے اپنے کام کی اصلاح پر مانگتا ہوں میں

اَللّٰهُ الْمَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: اَللّٰهُمَّ

اللہ تعالیٰ سے امن دنیا اور آخرت میں یا اللہ

اِلَيَّ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ

میں مانگتا ہوں تجھ سے توفیق نیک کاموں کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی

وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَ تَرْحَمَنِيْ

اور محبت غریبوں کی اور یہ کہ بخش دے تو مجھے اور رحم کر تو مجھ پر

وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ

اور جب ارادہ کرے تو کسی قوم پر بلا نازل کرنے کا تو اٹھا لینا مجھے قبل اس کے

مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ

کہ اس بلا میں پڑوں اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیری محبت اور اس شخص کی محبت

يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرِبُ إِلَىٰ عُبُودِكَ ۝

جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور اس عمل کی محبت جو تیرے قریب کرے تیری محبت سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي

یا اللہ کر دے اپنی محبت زیادہ پیاری مجھے میری جان سے

وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

اور گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے یا اللہ نصیب کر مجھے

حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ ۝

اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے لئے کارآمد ہو

اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَأَجْعَلْهُ

یا اللہ جس طرح دیا ہے تو نے مجھے جو کچھ مجھے پسند ہے تو کر دے اے میں میرا

قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ ۝ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَلَيَّ

اس کام میں جو تجھے پسند ہے یا اللہ جو کچھ دور کیا تو نے مجھ سے ان چیزوں

مِمَّا أُحِبُّ فَأَجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ ۝

میں سے جو مجھ کو پسند ہیں تو کر دے اے میرے حق میں فراغ ان چیزوں کے لئے جو تجھے پسند ہیں۔

يَا قَلْبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ۝

اے پلٹنے والے دلوں کے مضبوط رکھنا دل میرا اپنے دین سے پر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا ایمان کہ پھر نہ پھرے اور ایسی نعمت

لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ ختم نہ ہو اور خدمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ

برترین مقام جنت میں یعنی جنت الخلد میں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِدْقَ إِيمَانٍ وَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے سچے ایمان کے ساتھ اور

إِيمَانًا فِي حُسْنِ خَلْقٍ وَنَجَاحًا تَتَّبِعُهُ

ایمان حسن خلق کے ساتھ اور کامیابی جس کے پیچھے نجات بھی

فَلَاهَا وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً

مے تو مجھے اور رحمت تیری طرف سے اور امن اور بخشش تیری

مِنْكَ وَرِضْوَانًا ۝ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي

طرف سے اور خوشنودی یا اللہ نفع دے مجھے اس علم سے جو تو نے مجھے دیا

وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ۝ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ

اور مے مجھے وہ علم کہ نفع دے مجھے یا اللہ بوسیلہ اپنے عالم الغیب ہونے کے

وَقَدَّرْتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْنِي إِذَا عَلِمْتُ

اور مخلوق پر فتاد ہونے کے زندہ رکھ مجھے جب تک تیرے علم میں

الْحَيَاةَ نَحْيِرْ إِلَى وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتُ الْوَفَاةَ

زندگی بہتر ہو میرے لئے اور اٹھا لینا مجھے جب تیرے علم میں موت بہتر

نَحْيِرْ إِلَى وَأَسْأَلُكَ نَحْيِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ

ہو میرے لئے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا در عنائب

وَالشَّهَادَةَ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَى

اور حاضر میں اور کلمہ اخلاص کا عیش

وَالغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ

اور طیش میں اور مانگتا ہوں میں تجھ سے ایسی نعمت کہ ختم نہ ہو اور ایسی

عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

آنکھوں کی ٹھنڈک کہ جاتی نہ رہے اور مانگتا ہوں تجھ سے رضامندی تیرے حکم سے

وَبَرْدِ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى

اور خوش عیشی موت کے بعد اور مزا تیرے دیدار

وَجِهِكَ وَالشَّقَاقِ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ

کا اور تڑپ تیرے وصال کی اور پناہ چاہتا ہوں

مِنْ ضَرَاءِ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةِ قُضَلَةٍ ۝

بذریعہ تیری ذات کے معیبت آزار دینے والی اور بلا گمراہ کرنے والی سے

اللَّهُمَّ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا

یا اللہ راستہ کر دے ہمیں ایمان کی زینت سے اور کر دے

هُدًى قَاهِرِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ہمیں رہنا راہِ بھی یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

مِنَ الْفَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا

بھلائی سب کی سب اس وقت کی اور آئندہ کی اس

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

میں سے جس کا مجھ کو علم ہے اور جس کا نہیں یا اللہ میں

أَسْأَلُكَ مِنْ نَحِيرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ۝

مانگتا ہوں تجھ سے وہ سب بھلائی جس کو مانگا ہے تجھ سے تیرے بند اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت اور جو چیز اس کی طرف قریب کرنے والی ہو

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ۝ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ

قول ہو یا عمل اور مانگتا ہوں میں تجھ سے یہ کہ کر دے

كُلَّ قَضَائِي نَحِيرًا ۝ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ

ہر اپنے حکم کو میرے حق میں بہتر اور مانگتا ہوں میں تجھ سے جو کچھ جاری کرے

لِي مِنْ أَمْرِ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا ۝

تو میرے حق میں کوئی بات کہ کر دے تو انجام اس کا بھلائی

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَ

یا اللہ اچھا کر انجام ہمارا تمام کاموں میں اور

أَجِرْنَا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ۝

پسناؤ میں رکھو ہمیں دنیوی سے دنیا کی اور آخرت کے عذاب سے

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي

یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ قائم رکھو کھڑے ہوئے اور اسلام کے

بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا

ساتھ رکھ بیٹھے ہوئے اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ لیٹے ہوئے

وَلَا تُشِمْتْ بِكَ عَدُوٌّ أَوْ لَاحِاسِدٌ ۝

اور مجھ پر طعنہ کا موقع نہ دے نہ کسی دشمن کو اور نہ کسی حاسد کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ فَيْرٍ خَيْرِ أُمَّتِكَ

یا اللہ میں تجھ سے سب بھلائیوں مانگتا ہوں جن کے سزا نے تیرے

بِيَدِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي

قبضہ قدرت میں ہیں اور تجھ سے وہ بھلائی بھی مانگتا ہوں جو تمام تر تیرے

هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهِ ۝ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا

ہی قبضہ میں ہے یا اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ

ذُنُوبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ

پھوڑ جسے تو بخش نہ دے اور نہ کوئی تشویش جسے تو دور نہ کر دے

وَلَا دُنْيَا إِلَّا قَضَيْتَ وَلَا عَاجِلَةً مِّنْ

اور نہ کوئی تہرمنہ ایسا جسے تو ادا نہ کرے اور نہ کو حاجت دنیا

حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ

اور آخرت کی حاجتوں میں سے ایسے جسے تو پوری نہ کر دے لے سب سے بڑھ

الرَّاحِمِينَ ۚ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ

کر رحم کرنے والے یا اللہ ہماری امداد کر اپنے ذکر

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ۚ اللَّهُمَّ

اور اپنے شکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں یا اللہ

قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ

مجھے قناعت دے اس میں جو تو نے مجھے نصیب کیا ہے اور اس میں میرے لئے برکت

وَإِنْفَلِقْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ ۚ

مے اور ہر اس چیز میں جو میری نظر سے غائب ہے میرا نگہان رہ خیریت کے ساتھ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَّقِيَّةً وَ

یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں زندگی پاکیزہ اور

مَيِّتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِيٍّ وَلَا

اور موت ڈھنگ کی اور ایسی مراجعت جس میں میرے لئے سوالی او

فَاضِحٍ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقْوِي

فقیحت نہ ہو یا اللہ میں کمزور ہوں پس اپنی مرضیات میں

رَضَاكَ ضَعُفِي وَعُدُّ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي

میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دے اور کٹاں کٹاں مجھے خیر کی طرف لے جا

وَأَجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَايَ وَرِئِي

اور اسلام کو میری پسند کا منتہی بنا دے میں ذلیل ہوں سو

ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَرِئِي فَاقْرَبْنِي

مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں سو مجھے رزق دے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَتَفْصِيرَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے سب سے اچھا سوال اور سب سے

الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ

اچھی دعا اور سب سے اچھی کامیابی اور سب سے اچھا عمل

وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ

اور سب سے اچھا ثواب اور سب سے اچھی زندگی اور سب سے اچھی موت

وَتَبْتِنِي وَثَقُلْ مَوَازِينِي وَعَقِّ اِيْمَانِي

اور ثابت قدم رکھ مجھے اور بھاری کر میری نیکیوں کا پتہ اور سچا کر دے میرے ایمان کو

وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَأَسْأَلُكَ

اور بلند کر میرا درجہ اور قبول کر میری نماز اور مانگتا ہوں تجھ سے

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ

بلند درجے جنت کے آمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاحِشَ الْخَيْرِ وَنُفُوسَاتِكَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی کی ابتدائیں اور انتہائیں

وَجَوَامِعَكَ وَأَوْلَادَكَ وَأَخْرَجَكَ وَظَاهِرَكَ

اور اس کی جامع چیزیں اور اس کا اول اور اس کا آخر اور اس کا ظاہر

وَبَاطِنَكَ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا

اور اس کا باطن یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ان چیزوں کے

إِحْسَانِي وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا

بھلائی جو کروں دھروں میں اور اس کی بھلائی جو عمل میں لاؤں اور اس کی بھلائی

بَطْنِي وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ ۚ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ

جو پوشیدہ ہے اور اس کی بھلائی جو ظاہر ہے یا اللہ کرنا فراخ سب سے

رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَالنَّقْطَاجَ

رزق میرا میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے

عُمْرِي ۚ وَاجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي أَخْرَجَهُ وَخَيْرَ

کے وقت اور کرنا بہترین عمر میری آخری حصہ اس کا اور بہترین

عَمَلِي نُفُوسَاتِيكَ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عمل میرا پچھلے عمل اور سب سے بہتر میرے دنوں کا وہ دن جس میں تجھ سے

فِيهِ ۚ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِيهِ تَبَتَّنِي

ملوں نے مددگار اسلام کے ثبات قدم رکھ مجھے اسلام پر

بِهِ حَتَّىٰ أَلْقَاكَ ۖ أَسْأَلُكَ عِنَايَ وَعِنَا

یہاں تک کہ میں تجھ سے ملوں مانگتا ہوں تجھ سے اپنی سیر چشمی اور اپنے متعلقین

مَوْلَايَ ۙ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ

کا سیر چشمی یا اللہ میں تیرے ہی پناہ چاہتا ہوں بڑی عمر سے

وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ

اور دل کے فتنہ سے اور پناہ مانگتا ہوں میں بوسیدہ تیری عزت کے نہیں ہے کوئی اور

إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي وَمِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ

سوائے تیرے اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھے اور بلا کی مشقت سے

وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ

اور بد بختی کے پالینے سے اور بڑی تقدیر سے اور دشمنوں کے

الْأَعْدَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ

ظہن سے اور اس کام کی بُرائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی بُرائی سے جو میں نے

أَعْمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ

نہیں کیا اور اس چیز کی بُرائی سے جو مجھے معلوم ہے اور اس چیز کی بُرائی سے جو مجھے

أَعْلَمُ وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ

معلوم نہیں اور تیری نعمت کے جلتے رہنے سے اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے

وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَوِّطِكَ وَمِنْ

اور تیرے عذاب کے ناگہاں آجانے سے اور تیرے تمام غصوں سے اور اپنی

شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصِيرَتِي وَمِنْ شَرِّ

شنوائی کی بُرائی سے اور اپنی بینائی کی بُرائی سے اور اپنی زبان

لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّتِي

کی بُرائی سے اور اپنے دل کی بُرائی سے اور اپنی منی کی بُرائی سے

وَمِنْ الْفَاقَةِ وَمِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

اور فاقہ سے اور اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے

وَمِنْ الرَّهْمِ وَمِنْ التَّرَدِي وَمِنْ الْعَرَقِ

اور کسی چیز کے میرے اوپر گر جانے سے اور کسی چیز پر گر پڑنے سے اور ڈوب جانے سے

وَالْحَرَقِ وَأَنْ يَخْبَطَنِي الشَّيْطَانُ

اور جل جانے سے اور اسی سے کہ گڑ بڑ میں ڈال دے مجھے شیطان

عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي

موت کے وقت اور اس سے کہ مروں میں جہاد

سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمُوتَ لِدَيْفَاءٍ

سے بھاگ کر اور اس سے کہ مروں میں زہریلے جانور کے کاٹنے سے

الْمَنْزِلِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ

تیسرے منزل کے بروز دوشنبہ (پیر)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شُكُورًا

یا اللہ! کہ دے مجھے بڑا صبر والا اور کہ دے مجھے بڑا شکر والا

وَأَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ

اور کر دے مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں

النَّاسِ كَبِيرًا ۚ اللَّهُمَّ ضَعِفِي فِي أَرْضِنَا بَرَكَتَهَا

بڑا یا اللہ دے ہماری زمین میں برکت

وَزِينَتَهَا وَسَكَنَتَهَا وَلَا تَحْرِمْنِي بَرَكَتَ مَا

اور شادابی اور امن اور نہ محروم رکھ مجھے اس چیز کی برکت سے

أَعْطَيْتَنِي وَلَا تَفْتِنْنِي فِيمَا أَحْرَمْتَنِي ۚ

جو تو مجھے دے اور نہ فتنہ میں ڈال مجھے اس چیز کے بارے میں جو تو مجھے نہ دے

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي ۚ

یا اللہ اچھی بنائی ہے تو نے صورت میری پس اچھی کر دے سیرت میری

وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجْرِنِي مِنْ ضَلَالَاتِ

اور دور کر دے میرے دل کا غصہ اور بچائے رکھ مجھے گمراہ کرنے والے

الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا ۚ اللَّهُمَّ لَقِّنِي حُجَّةَ

فتنوں سے جب تک تو ہمیں زندہ رکھے یا اللہ سکھا دینا مجھے حجت

الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ ۚ رَبِّ أَسْأَلُكَ نَفِيرَ

ایمان کی موت کے وقت اے رب میں مانگتا ہوں تجھ سے اس چیز کی

مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَنَفِيرَ مَا بَعْدَهُ ۚ

بھلائی جو اس دن میں ہو اور اس چیز کی بھلائی جو اس کے بعد ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفِيرَ هَذَا الْيَوْمِ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس دن کی

وَقْتِي وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ:

اور فتح اس کی اور ظفر اس کی اور نور اس کا اور برکت اس کی اور ہدایت اس کی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے معافی اور امن

فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي:

اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَأَمِنْ رُوعَتِي

یا اللہ ڈھانک لے عیب میرا اور بدل باطن کر لے میرے خون کو

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

یا اللہ حفاظت کر میری آگے سے

وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي

اور میرے پیچھے سے اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے

وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ

اور میرے اوپر سے اور پناہ چاہتا ہوں میں بوسیدہ تیرے عظمت کے اس سے کہ

أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ناگہاں پکڑ لیا جاؤں اپنے پیچھے سے اے حقیقی اے مستبوم

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ

تیری رحمت کی طرف فریاد لاتا ہوں میں درست کر دے میرے تمام احوال کو

وَلَا تَكْنِئْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ۝

اور نہ سوچ مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحہ بھر

أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ

مانگتا ہوں میں تجھ سے جتن تیرے اس نورِ ذات کے کہ روشن ہے اس سے

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ

آسمان اور زمین اور صدف ہر اس حق کے جو تیرا ہے

وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تَقِيلَنِي

اور بزدلیہ اس حق کے جو مانگنے والوں کا تجھ پر ہے یہ کہ درگزر کرے تو مجھ سے

وَأَنْ تَجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ ۝

اور یہ کہ پناہ دے تو مجھے دوزخ سے اپنی قدرت سے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَ

یا اللہ کر دے اس دن کے اول صفت کو بہتری اور

أَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا أَسْأَلُكَ

اور اس کے اوسط حصہ کو فلاح اور اس کے آخری حصہ کو کامیابی میں مانگتا ہوں

نَصِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

تجھ سے بھلائی دنیا اور آخرت کی لئے سب سے بڑے مہربان

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَانْصُرْ شَيْطَانِي

یا اللہ بخش دے میرے گناہ اور دور کر دے میرے شیطان کو

وَفِكَ رَهَائِي وَثَقِلْ مِيزَانِي وَاجْعَلْنِي

اور کھول دے بند میرا اور بھاری کر میرا پتہ اور کرے مجھے

فِي السُّدِّي الْأَعْلَى ۝ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ

طقت اس میں یا اللہ بچانا مجھے اپنے عذاب سے

يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ۝ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ

جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے یا اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں

السَّبْعِ وَمَا أَظْلَتُ وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا

کے اور اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے اور پروردگار زمینوں کے اور اس چیز کے

أَقْلَتُ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ

جس کو زمین اٹھائے ہوئے ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور اس چیز کے جس کو انہوں نے

لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فَلَاقِكَ أَجْمَعِينَ

گمراہ کیا رہنا میرا نگہبان اپنی تمام مخلوق کی بُرائی سے

أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْفِئُ

اس سے کہ ظلم کرے کوئی ان میں سے مجھ پر یا کہ تھدی کرے

عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ۝

محفوظ ہے پناہ دیا ہوا تیرا اور با برکت ہے نام تیرا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ

نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے نہیں ہے کوئی شریک تیرا پاک ہے تو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَأَسْأَلُكَ

یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اپنے گناہ کی اور مانگتا ہوں تجھ سے

رَحْمَتِكَ ۚ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَسِّعْ لِي

رحمت تیری یا اللہ بخش دے میرا گناہ اور وسعت دے مجھے

فِي دَارِيٍّ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي ۚ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

میرے گھر میں اور برکت دے مجھے میرے رزق میں یا اللہ کر دے مجھے

مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ

بہت توبہ کرنے والوں میں سے اور کر دے مجھے پاک صاف لوگوں میں سے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي ۚ

یا اللہ بخش دے مجھے اور ہدایت کر مجھے اور رزق دے مجھے اور امن دے مجھے

اهْدِنِي لِمَا ائْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ۚ

راہِ صواب دکھا دے مجھے اپنے حکم سے جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا

یا اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری بینائی میں نور

وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا

اور میری سناوائی میں نور اور میری داہنی طرف نور

وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي

اور میرے بائیں طرف نور اور میرے پیچھے نور اور میرے سامنے

نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي عَصَبِي نُورًا وَ

نور اور کر دے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور

فِي لَحْمِي نُورًا وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي

میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں

نُورًا وَفِي كَبَشِرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا

نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور

وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَ

اور کر دے میری جان میں نور اور مجھے نورِ عظیم اور

اجْعَلْنِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ نَوْفِي نُورًا وَ

کر دے مجھے سراپا نور اور کر دے میرے اوپر نور اور

مِنْ تَحْتِي نُورًا ۞ اَللّٰهُمَّ اعْطِنِي نُورًا ۞

میرے نیچے نور یا اللہ دے مجھے نور

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا الْبُوابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ

یا اللہ کھول دے ہمارے لئے دروازے اپنی رحمت کے اور سہل کر دے ہم پر

لَنَا الْبُوابَ رِزْقِكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِي

پر لے اپنے رزق کے یا اللہ محفوظ رکھ مجھے

مِنَ الشَّيْطَانِ ۖ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۝

شیطان سے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا فضل

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ نَهْطَايَايَ وَفُرُوْجِيْ كُلَّهَا ۝

یا اللہ بخش دے میری کل گنہگاریاں اور قصور

اَللّٰهُمَّ اَنْعَشْنِيْ وَاَنْفِيْنِيْ وَاَرْزُقْنِيْ وَاَهْدِنِيْ

یا اللہ رفت دے مجھے اور جان دے مجھے اور رزق دے مجھے اور ہدایت کر مجھ کو

رِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاِخْلَاقِ اِنَّهُ لَا يَهْدِيْ

اچھے اعمال و اخلاق کی کیونکہ نہیں ہدایت کرتا ہے عمدہ

رِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ ۝

اعمال و اخلاق کی اور نہیں دور کرتا ہے بُرے اعمال و اخلاق کو کوئی سوائے تیرے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے رزق پاکیزہ اور علم

نَافِعًا وَعَمَلًا مُّقْبَلًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْبُدُكَ

کار آمد اور عمل مقبول یا اللہ میں غلام ہوں تیرا

وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ نَاصِيَتِيْ

اور بیٹا ہوں تیرے غلام کا اور بیٹا ہوں تیرے لوٹنڈی کا ہر تن قبضہ میں

بِيَدِكَ مَا هِيَ فِيْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ

ہوں تیرے نازد ہے میرے بارے میں حکم تیرا عین عدل ہے میرے

قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ

بارے میں فیصلہ تیرا مانگتا ہوں میں تجھ سے بحق ہر نام کے جو تیرا ہے کہ

سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي

جس کے ساتھ تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے یا اس کو اپنے

كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

کتاب میں اتارا ہے یا وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھا یا ہے

أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

یا اپنے علم غیب ہی میں اس کو رہنے دیا

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيبَ قَلْبِي وَ

یہ کہ کر دے قرآنِ عظیم کو بہار میرے دل کی اور

نُورَ بَصِيرِي وَبِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هِمِّي ۝

نورِ میری آنکھ کا اور کشائشِ میرے غم کا اور دُفیدِ میرے فکر کا

اللَّهُمَّ إِلَهَ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ

اے اللہ مہبودِ جبْرئیل کے اور میکائیل کے اور اسرافیل کے

وَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

اور مہبودِ ابراہیم کے اور اسمعیل کے اور اسحاق کے

عَافِيَنِي وَلَا تَسْلُطَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

عافیت دے مجھے اور نہ مسلط کرنا کسی ایسی مخلوق میں سے مجھ پر

عَلَىٰ بَشِيْرٍ لَّا طَاقَتَ لِي بِهِ ۖ

ایسی چیز کے ساتھ جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

یا اللہ کفایت کر میری اپنا حلال رزق دے کہ حرام روزی سے

وَاعْزِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ۖ

اور بے پروا کر دے مجھے بدولت اپنے فضل کے اپنے ماسوا سے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَىٰ وَكَأَنِّي

یا اللہ تو سنا ہے میری بات کو اور دیکھتا ہے میری جگہ کو

وَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ

اور جانتا ہے میرے پوشیدہ اور ظاہر کو چھپی نہیں رہ سکتی ہے مجھ سے

شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ

میری کوئی بات اور میں ہوں مصیبت زدہ محتاج

الْمُسْتَفِيْتُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِقُ

سندبادی ، پناہ جو ، ترساں و حراساں

الْمُقَرَّرُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ

اقرار کرنے والا ماننے والا اپنے گناہ کا سوال کرتا ہوں تجھ سے سوال

الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنِبِ

بیکس کا سا اور گڑ گڑاتا ہوں تیرے سامنے گڑ گڑانا گناہ گار

الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ

ذلیل کا سا اور طلب کرتا ہوں تجھ سے طلب کرتا ہوں زدہ آفت رسیدہ کا سا

وَدُعَاءَ مَنْ نَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتَهُ

اور طلب کرتا اس شخص کا سا کہ جسکی ہوئی ہو تیرے سامنے گردن اسکی

وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتَهُ وَذَلَّ لَكَ حِسْبُهُ

اور بہہ رہے ہوں آنسو اس کے اور فروتنی کے ہوئے ہو وہ تیرے سامنے

وَرَعِمَ لَكَ أَنْفُهُ ۖ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي

اور رگڑتا ہو تیرے سامنے ناک اپنی یا اللہ ذکر مجھے تجھ سے

بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا

دعا مانگنے میں ناکام اور ہو جا مجھ پر بہت مہربان رحیم ان سب

يَا خَيْرَ الْمُسْتَوْلِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ ۖ

سے بہتر جن سے مانگا جائے اور اے سب دینے والوں سے بہتر

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي

یا اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنے ضعیف القوی ہونے کے

وَأَقْلَبَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ

اور اپنی کم سامانی کے اور لوگوں کی نظروں میں کم وقعتی کے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَى مَنْ تَكَلَّمْتُ

اے ارحم الراحمین کس کے سپرد کرتا ہے تو مجھے

إِلَىٰ عَدُوِّ تَرْتَجِمَنِي أُمُّ إِلَىٰ قَرِيبًا تَلَكَّتْهُ

ایا کسی دشمن کے کہ سینہ زوری کرے مجھ سے یا کسی عزیز کے قبضہ میں دے دے تو اس کے

أَمْرِي إِنْ لَمْ تَكُنْ سَانِفًا عَلَيَّ فَلَا

میرے سب کام کو اگر تو فصد نہ ہو مجھ پر تو مجھ کو اسکی کچھ پروا تو نہیں

أَبَاكَ غَيْرَ أَنْ عَارِفِيكَ أَوْسَعُ لِي ۖ

مگر پھر بھی تیرے امن میں مجھ کو زیادہ گنہگار ہے

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ قُلُوبًا أَوَْاهَةً تَحْبِتَةٌ

یا اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے ایسے دل جو متاثر ہوں اور عاجزی کرنے والے ہوں

فَنِيْبَةٌ فِي سَبِيلِكَ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي

اُدبوجو ہونے والے ہوں تیری راہ میں یا اللہ میں

أَسَأَلُكَ إِيمَانًا يَبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا

مانگتا ہوں تجھ سے ایمان کہ پوریت ہو جائے میرے دل میں اور یقین

صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّكَ لَا يُهَيِّبُنِي

سچا یہاں تک کہ جان لوں کہ نہیں پہنچ سکتا ہے مجھ کو

إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِيٌّ مِنَ الْمَعِيشَةِ

مگر جو کچھ کہ تو لکھ چکا ہے میرے لئے اور رضانا اس چیز کے ساتھ کہ

بِمَا قَسَمْتَ لِي ۖ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

مقسوم میں لکھی تو نے میرے معاش میں سے یا اللہ تیرے واسطے تعریف ہے

كَالَّذِي يَقُولُ وَقَيْرًا تَمَّا يَقُولُ ۗ اللَّهُمَّ

جتنی کہ فرماتا ہے تو اور بڑھ کر اُس سے کہہتے ہیں ہم یا اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَفْلَاقِ

میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ناپسندیدہ احساق

وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْآدْوَاءِ نَعُوذُ بِكَ

اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے پناہ چاہتے ہیں

مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ

ہم تیری ان بڑی چیزوں سے جن سے پناہ مانگی ہے تیرے نبی محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ جَارِ

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اور بُرے پڑوس

السُّورِيِّ فَإِنَّ جَارَ الْبَارِيَةِ

سے قیام کی جگہ میں کیونکہ سفرکاسا مٹی تو

يَتَحَوَّلُ وَعَلَبَةِ الْعُدُوِّ وَشَمَاتَةِ

چل ہی دیتا ہے اور دشمن کے عنیبہ اور منافقین کے

الْأَعْدَاءِ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بَسُّسٌ

طنہ سے اور بھوک سے کہ وہ بُرا ہم خواب

الضَّمِيمِ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَبَسَّتِ الْبَطَانَةُ

ہے اور خیانت سے کہ وہ بُرا ہمزاد ہے

وَأَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَنْ

اور اس سے کہ پچھلے پیروں لوٹیں ہم یا ہم اپنے دین سے الگ ہو کر

دِينِنَا وَمِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

فتنہ میں پڑیں ہم اور تمام فتنوں سے جو ظاہری ہیں ان میں سے

وَمَا بَاطِنَ وَمِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنَ

اور جو باطنی ہیں اور بُرے دن سے اور بُری

لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ

رات سے اور بُری گھڑی سے

وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ

اور بُرے ساتھی سے

الْمَنْزِلِ الرَّابِعِ يَوْمَ الْبَلَاءِ

چوتھی منزل بروز شنبہ (منگل)

اللَّهُمَّ لَكَ صَلَوَاتِي وَسُكُونِي وَمَجِيئِي

یا اللہ تیرے ہی لئے ہے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا

وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَا بِي وَكَرَبْتُ رَبِّي

اور میرا مرنا اور تیری ہی طرف ہے میرا رجوع اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجَنَّبُ بِهِ الرِّيحُ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی ان چیزوں کی جو ہوائیں لاتی ہیں

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ

یا اللہ کر دے مجھے کہ بڑا شکر کروں تیرا اور زیادہ کروں

ذِكْرَكَ وَاتَّبِعُ نَهْيَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ :

ذکر تیرا اور مانوں تیری نصیحت اور یاد رکھوں تیری وصیت کو

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِينَا وَجَوَارِحَنَا

یا اللہ ہمارے دل اور سرتا پاہم اور اعضاء ہمارے

بِيَدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذْأَفْعَلْتَ

تیرے قبضہ میں ہیں ہمیں اختیار کامل دیا ہے تو نے میں ان میں سے کسی چیز پر پس جب تو نے ہمارے

ذَلِكَ بِمَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيْنَا وَاهْدِنَا إِلَى

ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو رہنا تو ہی مددگار ہمارا اور دکھا ہمیں

سَوَاءِ السَّبِيلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ

سیدھا راستہ یا اللہ کر دے اپنی محبت کو

أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ

مرفوب تر تمام چیزوں سے مجھ اور کر دے اپنے ڈر کو خوفناک

أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَأَقْطَعْ عَنِّي

زیادہ تمام چیزوں سے میرے نزدیک اور قطع کر دے مجھ سے

حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ

حاجتیں دنیا کی شوق دے کر اپنی ملاقات کا

وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ

اور جب کہ ٹھنڈی کر دی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی

دُنْيَا هُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ؛

دنیا سے تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقِسْمَةَ وَالْعِفَّةَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تم سے تندرستی اور پارسائی

وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخَلْقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ؛

اور امانت اور حسن خلق اور رضا معتر پر

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَوَلَكَ الْحَمْدُ

یا اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے شکر کے ساتھ اور تیرے ہی لئے احسان ہے

فَضْلًا؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ

فضل کے ساتھ یا اللہ میں مانگتا ہوں تم سے توفیق

لِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ

تیرے پسندیدہ اعمال کی اور سچے توکل کی

عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ؛ اللَّهُمَّ افْتَحْ

تم پر اور نیک گمان کی تیرے ساتھ یا اللہ کھول دے

مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ

میرے دل کے کان (سام) اپنے ذکر کے لئے اور نصیب کر مجھے فرمانبرداری اپنی

وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ ۞

اور فرمانبرداری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عمل اپنی کتاب پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَنْفَسَكَ كَأَنِّي أَرَاكَ

یا اللہ کر دے مجھے کہ ڈرا کروں تجھ سے گویا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں ہر

أَبَدًا حَتَّى الْقَائِلِ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ

وقت یہاں تک کہ آملوں میں تجھ سے اور سعید کر دے مجھے اپنے تقویٰ سے

وَلَا تَشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ الْطِفُّ

اور نہ شقی کر مجھے اپنی نافرمانی سے یا اللہ احسان کر

بَنِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ

میرے ساتھ سہل کر دینے میں ہر دشوار کے کیونکہ سہل کر دینا

كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ

ہر دشوار کا تجھ پر آسان ہے اور مانگتا ہوں میں تجھ سے سہولت

وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۞ اللَّهُمَّ

اور معافی دنیا اور آخرت میں یا اللہ

اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ ۞ اللَّهُمَّ

درگزر کر مجھ سے کیونکہ تو عفو کریم ہے یا اللہ

ظَهَرَ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ

پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے

وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ

اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے

فَإِنَّكَ تَعْلَمُ فَأَنَّتَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

کیونکہ تو جانتا ہے آنکھوں کی چوری اور جو کچھ

الضُّدُورُ ۙ اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ

دل چھپاتے ہیں یا اللہ نصیب کر مجھے آنکھیں

هَاتَاَتَيْنِ تُسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِدُرُوفِ

برسے والی کہ سیراب کریں دل کو پیتے ہوئے

الدَّمْعِ مِنْ نَحْسِيَّتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ

آنسوؤں سے تیرے خوف سے قبل اس وقت کے کہ ہو جائیں

الدَّمُوعَ دَمَاوَالْاَضْرَاسِ جَمْرًا ۙ اَللّٰهُمَّ

آنسو خون اور داڑھیں انگارے یا اللہ

عَافِنِيْ فِيْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِيْ فِيْ

امن دے اپنی قدرت میں مجھے اور داخل کر لے اپنی

رَحْمَتِكَ وَاَقْضِ اَجَلِيْ فِيْ طَاعَتِكَ وَ

رحمت میں مجھے اور گزار دے اپنی طاعت میں عمر میری اور

اٰخِرَتِيْ لِيْ بِخَيْرِ عَمَلِيْ وَاجْعَلْ ثَوَابِيْ الْجَنَّةَ ۙ

خاتمہ کر میرا میرے سب سے اچھے عمل پر اور کر دے ثواب اس کا جنت

اللَّهُمَّ فَارِجَ الرَّهْمِ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيبَ

لے اللہ دور کرنے والے مسکے زائل کرنے والے غم کے قبول کرنے والے

وَعُوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا

بلے مضراروں کی دعا کے رحمن دنیا کے اور رحیم اس کے

أَنْتَ تَرْحَمُنِي وَأَرْحَمُنِي بِرَحْمَةٍ تَفْنِينِي

تو ہی رحم کرے گا مجھ پر تو کر دے میرے اوپر ایسی رحمت کہ بے پروا کر دے تو

بِرَبِّهَا عَنْ رَحْمَةٍ مِنْ سِوَاكَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

مجھے اس کی وجہ سے اور وہا کی رحمت سے یا اللہ میں

أَسْأَلُكَ مِنْ فَجَاءَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ

مانگتا ہوں تجھ سے غنید مترقب بھلائی اور پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ فَجَاءَةِ الشَّرِّ ۝ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ

ناگہانی بُرائی سے یا اللہ تیرا ہی نام سلام ہے

وَعِنِكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ

اور تجھی سے ابتدا ہے سلامتی کی اور تیری ہی طرف لوٹتی ہے سلامتی

أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَسْتَجِيبَ

میں مانگتا ہوں تجھ سے لے جلال و اکرام والے یہ کہ قبول کرے ہمارے

لَنَا دَعْوَتَنَا وَأَنْ تُعْطِيَكَ رَغْبَتَنَا وَأَنْ

حق میں ہماری دعا اور یہ کہ دے ہمیں ہماری خواہش اور یہ کہ

تُقْنِينَا عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ ۝

بے پروا کر دے ہیں ان سے جن کو ہم سے بے پروا کیا ہے تو نے اپنی مخلوق میں سے

اللَّهُمَّ نِزْرِيْ وَانْفِزْ لِيْ ۝ اللَّهُمَّ ارْضِنِيْ

یا اللہ چھانٹ لے میرے واسطے اور پسند کر لے میرے لئے یا اللہ راضی رکھ مجھے

بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا قَدَّرَ لِيْ

اپنے حکم پر اور برکت دے میرے لئے اس چیز میں کہ معذرت کا گئی میرے لئے

حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْمِيْلَ مَا آخَرْتُ وَلَا تَأْخِيْرَ

تاکہ نہ چاہوں میں جلد ملنا اس چیز کا کہ دیر میں رکھا ہے تو نے اور نہ دیر میں آنا

مَا عَجَلْتُ ۝ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ

اس چیز کا کہ جلد لکھی ہے تو نے یا اللہ نہیں ہے عیش مگر عیش

الْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِيْ مَسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ

آخرت کا یا اللہ زندہ رکھ مجھے خاکسار اور مارنا

مَسْكِيْنًا وَأَحْسُرْ لِيْ فِيْ زُرَّةِ الْمَسَاكِيْنِ ۝

مجھے خاکسار اور اٹھانا مجھے خاکساروں کے گروہ میں

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا

یا اللہ کر دے مجھے ان لوگوں میں سے کہ جب نیک کام کریں

اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا سَاءُوا اسْتَغْفَرُوا ۝

تو خوش ہوں اور جب بُرا کام کریں تو مغفرت چاہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِي

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے خاص رحمت تیری کہ جس سے ہدایت کر دے

بِرَّاءِ قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلْتَمِسُ بِهَا شَعْبِي

تو میرے دل کو اور جمعیت دے اس سے میرے کاموں کو اور تربیت کر دے اس سے میری امتی کو

وَتُصْلِحْ بِهَا دِينِي وَتَقْضِي بِهَا دِينِي وَتَحْفَظْ

اؤ درست کر دے اس سے میرے دین کو اور ادا کر دے اس سے میرے فرض کو اور حفاظت رکھے بذریعہ اس

بِرَّاءِ غَائِبِي وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتُبَيِّضُ

کے میری غائب چیزوں کو اور رفعت دے اس سے میری ہر حاضر چیزوں کو اور نورانی کر دے اس سے

بِرَّاءِ وَجْهِي وَتُنْزِلَنِي بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا مَشِيدِي

چہرہ میرا اور پاکیزہ کر دے اس سے عمل میرا اور دل میں ڈال دے میرے اس سے درستی میری

وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَتِي وَتَعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

اور لوٹا دے اس سے میری حالت مالوفہ کو اور بچائے رکھ مجھے بذریعہ اس کے ہر بُرائی سے

اللَّهُمَّ اَعْلِمْنِي اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِينًا لَيْسَ

یا اللہ مجھے ایسا ایمان کہ پھر نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے

بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنْتَ بِهَا شَرَفْتَ كَرَامَتِكَ

بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت کہ پالوں میں بذریعہ اس کے شرف تیرے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

یہاں کی عزت کا دنیا اور آخرت میں یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

الْفَوْزِ فِي الْقَضَاءِ وَنُزْلِ الشُّهَدَاءِ وَعَمِيشِ

کامیابی قسمت میں اور مہمانی شہداء کی اور عیش

السُّعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالنُّصْرَةَ عَلَى

نیک بختوں کا ساتھ اور ساتھ انبیاء علیہم السلام کا اور فتح

الْأَعْدَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ اللَّهُمَّ

دشمنوں پر کیونکہ تو سُننے والا ہے دعا کا یا اللہ

مَا قَصُرَ عَنْكَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي

جو بھلائی کہ قاصر رہ گئی ہو اس سے رائے میری اور کم رہ گیا ہو عمل میرا

وَلَمْ تَبْلُغْهُ مُنِيَّتِي وَمَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ

اور نہ پہنچی ہو اُس تک آرزو میری اور سوال میرا کہ کیا ہو تو نے

وَعَدْتَهُ أَقْدَامِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ

وعدہ اس بھلائی کا کسی سے اپنی مخلوق میں سے یا ہو ایسی کوئی بھلائی کہ تو

مُعْطِيهِ أَقْدَامِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ

اس کو دینے والا ہو کسی کو اپنے بندوں میں سے تو میں خواہش کرتا ہوں

إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تجھ سے اس کے اور مانگتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کی وجہ سے اے رب العالمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أُنزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ

یا اللہ میں تیرے حوالہ کرتا ہوں اپنی خواہش اگرچہ کوتاہ ہے

رَأَيْتِي وَضَعْفَ عَمَلِي أَفْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ

سمجھ میری اور ضعیف ہے عمل میرا محتاج ہوں میں تیری رحمت کا

فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الْقُدُورِ

پس مانگتا ہوں تجھ سے اسے پورا کرنے والے کاموں کے اور اے شفا دینے والے دلوں کے

كَمَا تَجْبِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تَجْبُرَ مِنْ

جس طرح فاصلہ کر رکھا ہے تو نے دریاؤں میں یہ کہ نہ صلہ پر رکھے تو مجھے دروغ

عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ

کے عذاب سے اور داویلا کرنے سے اور

فِتْنَةِ الْقُبُورِ ۚ اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ

قبروں کے فتنہ سے اے اللہ مضبوط دوڑ والے

وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْآمِنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ

اور درست حکم والے مانگتا ہوں تجھ سے امن یوم وعید میں

وَالْجَنَّةِ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ

اور جنت یوم الخلود میں ان لوگوں کے ساتھ جو مقرب میں حاضر ہوں

الرُّكْعِ السُّجُودِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعُرُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ

رکوع اور سجدہ میں رہنے والے اپنے اقراروں کو پورا کرنے والے کیونکہ تو مہربان

وَدُودٌ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ ۚ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

شفقت والا ہے اور تو کر سکتا ہے جو کچھ چاہے یا اللہ کرے، ہمیں

هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ

راہنما راہ میں نہ بے راہ اور نہ بھٹکانے والا

سَلَامًا إِلَّا وِلْيَاءُكَ وَحَرْبًا إِلَّا عَدَاؤُكَ تَحِبُّ

دوست تیرے دوستوں کے اور دشمن تیرے دشمن کے دوست رکھیں تیرے

بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بَعْدَاوَتِكَ

محبت کا وجہ سے تیرے مخلوق میں سے اس کو جو تجھ سے محبت رکھے اور دشمن سمجھیں تیرے دشمنی

مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ ۙ اللَّهُمَّ هَذَا

کہ وجہ سے تیرے مخلوق میں سے اس کو کہ تجھ سے مخالفت کرے یا اللہ یہ

الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ

دعا ہے اور تیرے ذمہ قبول کرنا ہے اور یہ (میری) کوشش ہے

وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ ۙ اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ

اور تیرے اوپر بھروسہ ہے یا اللہ نہ حوالے کر مجھے میرے

نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا تُزِعْ مِنِّي صَاحِبَ

نفس کے ایک پلک بھر اور نہ چھین مجھ سے اچھی چیز کہ

مَا أَعْطَيْتَنِي ۙ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهِ

دی ہے تو نے مجھ یا اللہ تو ایسا خدا نہیں کہ ہم نے اس

بِاسْتِحْدَانِهِ وَلَا بِرَبِّ يَبِيدُ ذِكْرُهُ ابْتِدْعَانَهُ

کو گھڑ لیا جو اور نہ ایسا پروردگار کہ ناپائیدار ہو ذکر اس کا اور ہم نے

وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ يَقْضُونَ مَعَكَ وَلَا كَانُ

اے افتراء کر لیا ہو اور نہ تیرے اور ساتھی ہیں کہ تیرے حکم میں شریک ہوں اور نہ پہلے

لَنَا قَبْلَكَ مِنْ آلِهِ تَلْجَا إِلَيْهِ وَنَذْرَكَ

تجھ سے ہمارا کوئی خدا تھا جس کے پاس ہم پناہ پکڑتے ہوں اور تجھ کو چھوڑ دیتے ہوں

وَلَا أَعَانِكَ عَلَى خَلْقِنَا أَفَدَفْ شِرْكُهُ فِينِكَ

اور نہ مدد کی ہے تیری ہمارے پیدا کرنے میں کسی نے کہ ہم اسکو تیرے ساتھ شریک سمجھیں

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَسَأَلْتُكَ لِأَنَّكَ إِلَهٌ

بارک ت ہے تو اور برتر ہے پس مانگتے ہیں ہم تجھ سے نہیں ہے کوئی مبود سوا

أَنْتَ اغْفِرْ لِي يَا اللَّهُ أَنْتَ خَلَقْتَ لَفْسِي

تیرے بخش دے مجھے یا اللہ تو نے ہی پیدا کیا میری جان کو

وَأَنْتَ تَوْفِقْنَا لَكَ مَمَاتْرَهَا وَحَيَاتَهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا

اؤ تو ہی موت دے گا اے تیرے ہی لئے ہے مرنا اس کا اور جینا اس کا اگر زندہ رکھے تو اے

فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الْفَسَّاحِينَ

تو حفاظت کر اسکی ایسی حفاظت سے کہ تو اپنے نیک بندوں کی اس حفاظت کرتا ہے

وَإِنْ أَمَاتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَأَرْحَمَهَا يَا اللَّهُ أَنْتَ أَعْنِي

اور اگر موت دے تو اے بخش دینا اے اور رحم کرنا اس پر یا اللہ مدد کر میری

بِالْعِلْمِ وَزَيْتِي بِالْحِلْمِ وَآكِرْمَنِي بِالتَّقْوَى وَجَمَلَنِي

علم سے اور آراستہ کر مجھے وقار سے اؤ بزرگی دے مجھے پرہیزگاری سے اور جمال دے مجھے

بِالْعَافِيَةِ ۚ اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُنِي زَمَانٌ وَلَا

امن سے یا اللہ نہ پائے مجھے وہ زمانہ اور نہ

يُدْرِكُ كُوزَ مَانَا لَا يُتَّبِعُ فِيهِ الْعَلِيمُ وَلَا السَّخِي

پائیں یہ لوگ اس زمانہ کو کہ نہ اتباع کی جائے اس میں عالم کی اور زحماذ کیا جائے

فِيهِ مِنَ الْخَلِيمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْأَعَاجِمِ وَ

اس میں باوقار سے دل ان کے دل مجیبوں کے سے اور

السِّنْتُهُمُ السِّنَةُ الْعَرَبِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذُ

زبانیں ان کی زبانیں عرب کا سے یا اللہ میں لیتا ہوں

عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

تجہ سے ایک وعدہ کہ ہرگز نہ خلاف کرنا اس کے میں چونکہ بشر ہوں

فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَذِيَّتُهُ أَوْ شَتْمَتُهُ أَوْ جَلْدَتُهُ

تو جو مسلمان کہ تکلیف دوں میں اسے یا بڑا جھلا کہوں میں اسے یا ماروں پیٹوں اسے

أَوْ لَعْنَتُهُ فَاَجْعَلْ لِي صَلَوةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً

یابد دعاؤں اس کو تو کر دنیا اس کو اس کے حق میں رحمت اور پاک اور ذریعہ قربت لاکہ

تَقْرِبُ بِي بَرًّا إِلَيْكَ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

مقرب بنائے تو اس کو بوجہ اس کے یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں

الْبَرَصِ وَمِنَ الشَّقَاةِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ

برص سے اور ضد اضدی سے اور نفاق سے اور برے

الْأَخْلَاقِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ

اخلاق سے اور اس چیز کی بُرائی سے جسے تو جانتا ہے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی

مِنْ عَالِ أَهْلِ النَّارِ وَمِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ

اہل دوزخ کے حال سے اور دوزخ سے اور اس چیز سے کہ قرب لے

إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَمِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ

اس سے قول ہو یا عمل اور اس چیز کی بُرائی سے جو

أَفْذَرُ بِنَاصِيَتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي

تیرے قبضہ میں ہے اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری اس چیز کی بُرائی سے جو

هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي

اس دن میں ہے اور اس چیز کی بُرائی سے جو اس کے بعد ہے اور اپنے نفس کی بُرائی سے

وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ وَأَنْ تَقْتَرِفَ

اور شیطان کی بُرائی سے اور اس کے شرک سے اور اس سے کہ حاصل کریں ہم

عَلَى الْفُسِينَا سُوءًا أَوْ نَجْرَةً إِلَى مُسْلِمٍ أَوْ

اپنی جان پر کسی بُرائی کو یا اس کو کسی مسلمان کی طرف پہنچائیں یا

الْكُتْبِ فَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ وَمِنْ

کروں میں کوئی ایسی غلط یا گناہ جسے تو نہ بخشے اور

ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

مقام کی تنگی سے قیامت کے دن

الْمَنْزِلُ الْخَامِسُ يَوْمَ الْارْبَعَاءِ

پانچویں منزل کے روز چہار شنبہ (بدھ)

اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَكَيْسِرِي أَقْرَبِي ۝

یا اللہ محفوظ کرے میری شرمگاہ کو اور آسان کر دے مجھ پر میرا کام

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وضو کا کمال اور نماز کا کمال

وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ ۝

اور تیری خوشنودی کا کمال اور تیری مغفرت کا کمال

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي ۝ اللَّهُمَّ

یا اللہ دینا میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں یا اللہ

غَشِيْنِي بِرَحْمَتِكَ وَجَبِّبْنِي عَذَابِكَ ۝

ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت میں اور بچانا مجھے اپنے عذاب سے

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي يَوْمَ تَزَلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ ۝

یا اللہ ثابت رکھنا میرے قدم جس دن کہ ڈگیں گے قدم

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِينَ ۝ اللَّهُمَّ افْتَحْ

یا اللہ کرنا ہمیں نجات پانے والے یا اللہ کھول دے

أَقْفَالَ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ وَآتِنَا

قفل ہمارے دلوں کے اپنے ذکر سے اور پورا کر ہم پر

نِعْمَتِكَ وَاسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا

اپنی نعمت کو اور کامل کر ہم پر اپنا فضل اور کر دے ہمیں

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ اللَّهُمَّ اتِنِي

اپنے نیک بندوں میں سے یا اللہ مجھے

أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ۝

جو سب سے بڑھ کر چیز اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَ أَمِتْنِي مُسْلِمًا ۝

یا اللہ زندہ رکھ مجھے مسلمان اور مارنا مجھے مسلمان

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ وَ أَلْقِ فِي قُلُوبِهِمْ

یا اللہ عذاب دے کافروں کو اور ڈال دے ان کے دلوں میں

الرُّعْبَ وَخَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ أَنْزِلْ

رُعب اور اختلاف پیدا کر دے ان کی بات میں اور اتار

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ۝ اللَّهُمَّ عَذِّبِ

ان پر قہر اپنا اور عذاب اپنا یا اللہ عذاب دے

الْكُفْرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ

کافروں کو اہل کتاب اور مشرکین کو

الَّذِينَ يَجْحَدُونَ آيَاتَكَ وَ يُكَذِّبُونَ

جو انکار کرتے ہیں تیری آیتوں کا اور جھٹلاتے ہیں

رُسُلِكَ وَيُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ

تیرے رسولوں کو اور روکتے ہیں تیسری راہ سے اور

يَتَعَدُّونَ حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ

تجاوز کرتے ہیں تیسری حدود سے اور پکارتے ہیں تیرے ساتھ

إِلَهِهَا آخِرَ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

اور معبود کو نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے بابرکت ہے تو اور برتر ہے

عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ اللَّهُمَّ

اس سے کہ کہتے ہیں ظالم بہت بڑا برتر ہونا یا اللہ

اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

بخش ہمیں اور تمام مومنین اور مومنات اور

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْهُمْ وَ

مسلمین اور مسلمات کو اور درست کر دے انہیں اور

أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

صلح دے ان کے آپس میں اور الفت دے ان کے دلوں میں

وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَ

اور کر دے ان کے دلوں میں ایمان اور حکمت اور

تَبَتَّهِمْ عَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ

ثابت رکھ انہیں اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین پر اور نصیب کر انہیں یہ کہ

يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ

شکر کری تیری اس نعمت کا جو تو نے انہیں دی ہے اور یہ کہ

يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ

پورا کریں تیرا وہ عہد جو تو نے ان سے لیا ہے

وَأَنْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوَّهُمُ إِلَهُ

اور غالب کر ان کو اپنے اور ان کے دشمن پر اے مہبود

الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ائْتِنِّي

برحق پاک ہے تو کوئی مہبود تیرے سوا نہیں بخش دے میرے

ذُنُوبِي وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي إِنَّكَ تَفْعَلُ الذُّلُوبَ

گناہ اور درست کرے میرے عمل کیونکہ تو بخش دیتا ہے گناہ

لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَا

جس کے چاہتا ہے اور تو ہی غفور رحیم ہے اے

غَفَّارُ ائْتِنِّي يَا تَوَّابُ تَبَّ عَلَيَّ يَا رَحْمَنُ

غفار بخش دے مجھے اے تواب توبہ قبول کر میرا اے رحمنے

ارْحَمْنِي يَا عَفُوفٌ عَنِّي يَا رُءُوفٌ ارْءُوفِ

رحم کر مجھ پر اے عفو درگزر کر مجھ پر اے رؤف مہربان ہوجا

لِي يَا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

مجھ پر اے پروردگار نصیب کر مجھے یہ کہ شکر کر دتیری نعمت کا

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوَّقَنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ

جو تو نے مجھ پر کی ہے اور طاق لے مجھے اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کی

يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ يَا رَبِّ

اے رب میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی سب کی سب اے رب

اَفْتَحْ لِي بِخَيْرٍ وَأَنْتُمْ لِي بِخَيْرٍ وَقِنِي

آغاز کر میرا خیر کے ساتھ اور خاتمہ کر میرا خیر کے ساتھ اور بچا مجھے

السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ

برائیوں سے اور جس کو تو بچالے اس دن برائیوں سے تو

فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

بیشک اس پر تو نے رحم کیا اور یہی تو ہے بڑی کامیابی

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَ

یا اللہ تیرے ہی لئے ہے تعریف سب کی سب اور تیرے ہی لئے ہے شکر سب کا سب اور

لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ

تیرا ہی ہے ملک سب کا سب اور تیرا ہی ہے مخلوق سب کی سب تیرے ہی قبضہ میں ہے

الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

بھلائی سب کی سب اور تیرا ہی طرف رجوع ہوتی ہیں کل باتیں

أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ۝

میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی سب کی سب اور تیری پناہ چاہتا ہوں تمام برائیوں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ۝ اللَّهُمَّ

میں نام لیتا ہوں اس اللہ کا جس کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ

أَذْهِبْ عَنِّي الرَّاحَةَ وَالْحُزْنَ ۝ اللَّهُمَّ

دُور کر مجھ سے منگ اور غم یا اللہ

بِحَمْدِكَ انصرفتَ وَبِذَنْبِي اعترفتَ ۝

تیری ہی حمد کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں میں اپنے گناہ کا استدار کرتا ہوں

اللَّهُمَّ الرَّحْمٰنُ وَاللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ

لے اللہ معبود میرے اور معبود ابراہیم کے اور اسحاق کے

وَيَعْقُوبَ وَاللَّهُ جِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ

اور یعقوب کے اور معبود جبرائیل کے اور میکائیل کے

وَاسْرٰفِيْلَ اَسْأَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِي

اور اسرافیل کے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے یہ کہ قبول کر لے میری دعا

فَاَنَا مُضْطَرٌّ وَتَعْصَمْنِي فِي دِيْنِي فَاِنِّي

کیونکہ میں بے قرار ہوں اور محفوظ رکھے تو مجھے میرے دین میں کیونکہ میں

مُسْتَلٌّ وَتَسْأَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّي مُذْنِبٌ

بلا میں پڑا ہوا ہوں اور شامل حال کرنا میرے اپنی رحمت کیونکہ میں گناہگار ہوں

وَ تَنْفِي عَنِّي الْفَقْرَ فَاِنِّي مُتَمَسِكٌ ۝

اور دور کر دے مجھ سے محتاجی کیونکہ میں بے کس ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے اس حق کے ذریعے جو سائلوں کو تجھ پر حاصل ہے

فَإِنَّ لِلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا أَيَّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

کیونکہ سائلوں کا تجھ پر حق ہے جو نسا غلام یا لونڈی

مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ دَعْوَتَهُمْ

نشی و تری والوں سے کہ قبول کی ہے تو نے دعا ان کی

وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ

اور مستجاب الدعوات کیا ہو انہیں یہ کہ شریک کرے تو ہمیں ان اچھی دعاؤں

مَا يَدْعُونَكَ فِيهِ وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ

میں کہ مانگیں وہ تجھ سے اور یہ کہ شریک کرے تو ان کو ان اچھی

مَا نَدْعُوكَ فِيهِ وَأَنْ تُعَافِينَا وَإِيَّا هُمْ وَ

دعاؤں میں کہ مانگیں ہم تجھ سے اور یہ کہ عافیت دے تو ہمیں اور ان کو اور

أَنْ تُقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَأَنْ تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

یہ کہ قبول کرے تو ہم سے اور ان سے اور یہ کہ درگزر کرے ہم سے اور ان سے

فَإِنَّا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

کیونکہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا اور پیروی کی ہم نے رسول کی

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ : اللَّهُمَّ اعْطِ

پس لکھ کے ہمیں شہادت دینے والوں میں یا اللہ دے

تَحْتَدِي الْوَسِيلَةَ وَاجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم و سیدہ اور کر دے برگزیدہ لوگوں میں

مَحَبَّتَهُ وَفِي الْأَعْلَىٰ دَرَجَاتِهِ فِي الْمُقَرَّبِينَ

محبت آپ کی اور عالی مرتبہ لوگوں میں درجہ آپ کا اور معتربین میں

ذِكْرَهُ ۖ اللَّهُمَّ اهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ

ذکر آپ کا یا اللہ سے تو مجھے ہدایت اپنے پاس سے اور اضافہ کر

عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْبِغْ عَلَيَّ مِنْ

مجھ پر اپنا فضل اور کامل کر مجھ پر

رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ ۖ

اپنی رحمت اور آمار مجھ پر اپنی برکتیں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ

یا اللہ بخش مجھے اور رحم کر مجھ پر اور توبہ قبول کر میری کیونکہ توبہ

أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

تَوْفِيقَ أَهْلِ الْبُرْهَانِ وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ

توفیق اہل ہدایت کی کسی اور عمل اہل یقین کے سے

وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعِزِّمَ أَهْلِ

اور احسان اہل توبہ کا اور ہمت اہل

الصَّبْرِ وَجِدِّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبِ

صبر کی کسی اور کوشش اپنی خوف کی کسی اور طلب

أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبِدِ أَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانِ

اپنی شوق کی کسی اور عبادت اپنی تقویٰ کی کسی اور معرفت

أَهْلِ الْعِلْمِ حَتَّى الْقَاكِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي وَ

اپنی علم کی کسی یہاں تک کہ بلوں میں تجھ سے یا اللہ میں

أَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَحْجِرُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ

مانگتا ہوں تجھ سے ایسا خوف کہ روک لے مجھے تیری نافرمانیوں سے

حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اسْتَحِقُّ

تاکہ عمل کروں میں تیری طاعت کے ایسے عمل کہ مستحق ہو جاؤں

بِهِ رِضَاكَ وَوَعْتِي أَنَا صِحَّكَ بِالتَّوْبَةِ

ان سے تیری خوشنودی کا اور تاکہ خالص کروں تیرے سامنے توبہ

نُفُورًا عِنْدَكَ وَحَتَّى أَفْلِحَ لَكَ الذَّصِيحَةَ

دور کر تجھ سے اور تاکہ صاف کروں تیرے سامنے خلوص کو

حَيَاءً عِنْدَكَ وَوَعْتِي أَلْتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي

شرما کر تجھ سے اور تاکہ بھروسہ کروں تجھ پر

الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحَسَنَ ظَنِّي بِكَ سُبْحَانَ

کل کاموں میں اور مانگتا ہوں نیک گمان کو تیرے ساتھ پاک ہے

خَالِقِ النُّورِ ۞ اَللّٰهُمَّ لَا تُرْسِلْنَا فِجَاءَةً وَلَا

پیدا کرنے وار نور کا یا اللہ مت ہلاک کرنا ہم کو ناگہاں اور نہ

تَأْخُذُنَا بِنَفْسَةٍ وَلَا تُفْلِنَا عَنْ حَقِّ وَلَا

پکڑنا ہم کو اچانک اور نہ غافل کرنا ہمیں کسی حق سے اور نہ

وَصِيَّةٍ ۞ اَللّٰهُمَّ اِنْسُ وَعُشَيْتِيْ فِيْ قَبْرِىْ ۞

کسی وصیت سے یا اللہ بدل بہ انس کرنا میری وحشت کو میری قبر میں

اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاَجْعَلْهُ

یا اللہ رحم کر مجھ پر بظہیر قرآن عظیم کے اور کر دے

لِيْ اِمَامًا وَّلَوْ اَوْهَدْتَنِيْ وَرَحْمَةً ۞

اے میرے لئے رہبر اور نور اور ہدایت اور رحمت

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ

یا اللہ یاد کرائے مجھے اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں اور سکھائے مجھے

مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَاَرْزُقْنِيْ تِلَاوَتَكَ

اس میں سے جو کچھ میں نہ جانتا ہوں اور نصیب کر مجھ کو تلاوت اس کی

اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَاِنَّاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ

رات دن کے اوقات میں اور کرنا لے میرے لئے

مُحِجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۞ اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ

حجت لے رب العالمین یا اللہ میں غلام ہوں تیرا

وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِبَيْدِكَ

اور بیٹا ہوں تیرے غلام کا اور تیری لونڈی کا ہمہ تن قبضہ میں ہوں تیرے

أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ وَأُصَدِّقُ بِلِقَائِكَ وَ

چلتا پھرتا ہوں تیرے قبضہ میں اور تصدیق کرتا ہوں تیرے ملنے کی اور

أَوْ مِنْ بَوْعِدِكَ أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُ وَ نَهَيْتَنِي وَ

یقین رکھتا ہوں تیرے وعدہ پر مجھ کو تو نے حکم کیا تو میں نے نافرمانی کی اور تو نے منع کیا

فَأَتَيْتُ هَذَا مَكَانَ الْعَاذِيكَ مِنَ النَّارِ

تو میں نے اس کا ارتکاب کیا یہ جگہ ہے پناہ لینے والے کی بذریعہ تیرے دوزخ سے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي

ہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے پاک ہے تو میں نے ظلم کیا اپنی جان پر

فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ۝

بس بخش دے مجھے کیونکہ نہیں بخش سکتا ہے گناہوں کو کوئی سوائے تیرے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِلَيْكَ الْمُشْتَكَى وَ

یا اللہ تجھی کو سزاوار ہے تعریف اور تجھی سے لائق ہے شکایت اور

بِكَ الْمُسْتَعَاثُ وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَ

تجھی سے چاہیے سہارا اور تو ہی لائق ہے مدد کے جانے کے اور

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

ہیں ہے بچنا گناہ سے اور زقوت عبادت کی گوسامہ اللہ کے یا اللہ میں

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاةِكَ

پناہ چاہتا ہوں تیری رضا کے ساتھ تیری ناخوشی سے اور تیرے عفو کے ساتھ

مِنْ عِقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَّا أُصِيبُ

تیری عقوبت سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری تجھ سے نہیں کر سکتا ہوں میں

كُنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ۝

تقریب تیری تو اسی تقریب کے لائق ہے کہ خود کی ہے تو نے اپنی ذات کی

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزَلَ أَوْ

یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تیری اس سے کہ ہم ڈگ جائیں یا کسی کو

نَزَلَ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ

ڈگائیں یا ہم کسی کو گمراہ کریں یا ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا

تَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا أَوْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ

ہم جہالت کریں یا ہم پر جہالت کی جائے یا گمراہ ہوں میں یا گمراہ کیا جاؤں

أَعُوذُ بِسُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ

چاہتا ہوں میں پناہ تیری ذاتِ گرامی کے نور کی جس سے روشنی ہیں

لَهُ السَّمَاوَاتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ

آسمان اور چمک رہی ہیں اس سے ظلمتیں

وَصَالِحٌ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ

اور درست ہیں اس سے کام دنیا اور آخرت کے اس سے کہ

تَحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ وَتُنزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ

آمارے تو مجھ پر غصہ اپنا اور نازل کرے تو مجھ پر ناخوشی اپنی

وَلَكَ الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَلَا حَوْلَ وَ

اور تیرا ہی حق ہے تجھ کو منا یا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور نہیں ہے پھر ناگناہ سے اور

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ۖ أَلَلُّمَّ وَأَقِيَّةٌ كَوَاقِيَّةٌ

طاقت عبادت کی مگر تیری مدد سے یا اللہ چاہتا ہوں میں نگہبانی مثل نگہبانی

الْوَلِيدِ ۖ أَلَلُّمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

بچہ کے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری برائی سے

الْأَعْمْيَانِ السَّيْلِ وَالْبَعِيرِ الْقَشُولِ ۖ

دواندھوں یعنی رو اور عمدہ اور اونٹ کے

الْمُنَزَّلِ السَّادِسُ يَوْمَ الْخَمِيسِ

چھٹے منزل روز پنجشنبہ (جمعرات)

أَلَلُّمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَحَلِّ نَبِيِّكَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی ہیں

وَأَبْرَاهِيمَ نَهْلِيكَ وَمُوسَىٰ نَجِيكَ

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے نعلیل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں

وَعَيْسَىٰ رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَبِكَلَامِ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں اور بطفیل کلام

مُوسَىٰ وَ إِبْرَاهِيمَ عِيسَىٰ وَ زُكْرِيَّا وَ اٰوَدَ

حضرت موسیٰ اور ابراہیم حضرت عیسیٰ کے اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے

وَ فِرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

وَ بِكُلِّ وَحْيٍ أَوْعِيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ

اور بطفیل ہر وحی کے جس کو تو نے بھیجا ہو اور ہر حکم کے جس کو تو نے جاری کیا ہو

أَوْ سَأَلٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ فِقِيرٍ أَغْنَيْتَهُ

اور بذرعیہ ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو اور ہر محتاج کے جس کو تو نے توڑگو کیا ہو

أَوْ عَنِّي أَفْقَرْتَهُ أَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهُ وَ

اور توڑگو کے جس کو تو نے محتاج کر دیا ہو اور ہر گمراہ کے جس کو تو نے ہدایت کیا ہو اور

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَىٰ

مانگتا ہوں تجھ سے میں بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے

الْأَرْضِ فَاسْتَقْرَرْتُ وَ عَلَى السَّمَاوَاتِ

زمین پر رکھا تو ٹھہر گئی اور آسمانوں پر رکھا

فَاسْتَقَلَّتْ وَ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ

تو ٹھم گئی اور پہاڑوں پر رکھا تو جم گئی

وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَرَّ بِهِ

اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس تیرے نام کے کہ ٹھہرا ہوا ہے اس سے

عَرُّشِكَ وَاسْأَلْكَ بِاسْمِكَ الظَّاهِرِ الْكَاطِرِ

عرش تیرا اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بظہیر اس تیرے نام کے کہ پاک ہے اور ستھرا ہے

الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ وَبِاسْمِكَ

جو تیری کتاب میں تیرے یہاں سے اتارا گیا ہے اور بظہیر اس تیرے نام کے

الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الثَّرَاوِثِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى

جس کو تو نے دن پر رکھا تو روشن ہو گیا اور

اللَّيْلِ فَأُطْلِمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبَرِيَّاتِكَ وَ

رات پر رکھا تو اندھیری ہو گئی اور بظہیر تیری عظمت کے اور تیری بڑائی کے اور

بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

بظہیر تیرے نور ذات کے یہ کہ نصیب کرے تو مجھے قرآن عظیم

وَتَخْلِطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَ

اور پیوست کرے تو اسے میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میری شنوائی میں اور

بَبَصَرِي وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي بِكَوْلِكَ

میرا بینائی میں اور اس پر عامل بنا دے میرے جسم کو اپنی قدرت

وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا مَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ۝

اور قوت سے کیونکہ نہیں ہے پھر نامعیت سے اور نہیں قوت عبادت کا مگر تیرے ذریعہ سے

اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنَّا فَكَرَكَ وَلَا تُنْسِنَا فَذَكَرَكَ

یا اللہ نہ نڈر کرے ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے اور مت بھلا ہم کو اپنا ذکر

وَلَا تَهْتِكْ عَلَيْنَا سِرَّكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ

اور نہ پردہ درمی کر ہماری اور نہ کر ہمیں

الْعَافِيَيْنِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْمِيلَ

عافلوں میں سے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تیری

عَافِيَتِكَ وَوَقَعَ بِدَائِكَ وَخُرُوجًا مِنْ

عافیتِ عاجلہ اور تیری بلا کا دفعیہ اور نکلنا دنیا

الدُّنْيَا إِلَى رَحْمَتِكَ يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ

سے تیری رحمت کی طرف لے وہ کہ کافی ہے سب کے

أَعْدٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ أَحَدٌ يَا أَحَدَ مَنْ لَا

عوض اور نہیں کافی ہے اس کے عوض میں کوئی لے کس بے کسوں

أَعْدَلَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ انْقَطَعَ

کے لے سہارے بے سہاروں کے قطع ہو گئی

الرِّبَاءُ إِلَّا مِنْكَ نَجِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِنِّي

امید مگر تجھ سے نجات دے مجھے اس حال سے کہ میں اس میں ہوں

عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بِي بِجَاهِ وَجْهِكَ

اور مدد کر میری بلا نازل شدہ پر صدفہ اپنی ذات پاک

الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَمِينٌ ۚ

اور لطیف حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تجھ پر ہے امین

اللَّهُمَّ اخْرِسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَانْفُسْنِي

یا اللہ نگہبانی کر میری اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں اور آڑ میں لے لے مجھے

بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَأَرْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ

اپنی اس قوت کے جس کے پاس کوئی نہیں چٹک سکتا اور رحم کر مجھ پر بوجہ اپنی اس قدرت کے

عَلَيَّ فَلَا أَهْلِكَ وَأَنْتَ رَجَائِي فَكَم مِثْر

جو تجھ کو مجھ پر حاصل ہے کہ پھر میں ہلاک نہ ہوں اور تو ہی میری امید گاہ ہے بہتیری ایسے

نِعْمَةٍ أَلَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قُلْ لَكَ بِهَا شُكْرِي

نعمتیں ہیں کہ تو نے دی مجھے اور کم رہا بتا بلکہ ان کے شکر میرا

وَكَم مِثْرٍ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قُلْ لَكَ بِهَا

اور بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں کہ مبتلا کیا تو نے مجھے ان میں اور کم رہا انہ پر

صَبْرِي فَيَا مَنْ قُلْ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي

صبر میرا پس لے وہ کہ کم رہا اسکی نعمت کے وقت شکر میرا

فَلَمَّ يَجْرُمُنِي وَيَا مَنْ قُلْ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ

پھر بھی مجھ کو مجھے اور لے وہ کہ کم رہا اس مصیبت کے وقت

صَبْرِي فَلَمَّ يَخْذُلُنِي وَيَا مَنْ رَأَيْتِي عَلَيَّ

صبر میرا پھر بھی ساتھ نہ چھوڑا میرا اور وہ کہ دیکھا مجھے

الْخَطَايَا فَلَمَّ يَفْضَحُنِي ۚ يَا ذَا الطُّعْرُوفِ

گناہوں پر پھر بھی نغیبت نہ کیا مجھے لے ایسے احسان والے

الَّذِي لَا يَنْقِضِي أَبَدًا وَيَا ذَا النِّعْمَاءِ الَّتِي

کہ کبھی ختم نہ ہو اور اے ایسی نعمتوں والے کہ کبھی

لَا تَحْضِي أَبَدًا سَأَلْتُكَ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

شمار نہ ہو سکیں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ رحمتِ کاملہ نازل کرے حضرت محمد

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأْفِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ

اور آل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تیرے ہکا زور پر پھر جاتا ہوں دشمنوں اور زور اور دل

وَالْجَبَابِرَةِ يَا اللَّهُ مَدِّ كَرَمِي دِينِي بِالدُّنْيَا

کے مقابلہ میں یا اللہ مدد کر میری دین پر دنیا کے ساتھ

وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِالتَّقْوَىٰ وَأَصْفَظْنِي فِيهَا

اور میری آخرت پر تقویٰ کے ساتھ اور تو ہی محافظہ میری ان چیزوں کا

غَبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فِيهَا

جو میری آنکھ سے دور ہیں اور نہ حوالہ کر مجھے میرے نفس کے ان چیزوں میں جو میرے

فَضُرْتُ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا

پیش نظر ہوں اے وہ کہ نہیں نقصان پہنچاتے اے گناہ اور نہیں

تَنْقُضُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ

کھا کرتی اس کے بیان مغفرت نے مجھے وہ چیزیں کہ نہیں کمی کرتی تیرے یہاں کی

وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يُضُرُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اور عاف کرے مجھے وہ چیز کہ نہیں نقصان پہنچاتی مجھے کیونکہ تو ہی دینے والا ہے

أَسْأَلُكَ فَرْجًا قَرِيْبًا وَصَبْرًا جَمِيْلًا وَرِزْقًا

مانگتا ہوں میں تجھ سے کشائش فوری اور صبر جمیل اور رزق

وَإِسْعًا وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَ

واسع اور امن جسد بلاؤں سے اور

أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ

مانگتا ہوں میں تجھ سے پورا امن اور مانگتا ہوں میں تجھ سے بقا امن کی

وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ

اور مانگتا ہوں میں تجھ سے شکر امن پر اور مانگتا ہوں میں تجھ سے

الْغِنَى عَنِ النَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

سیرتھی آدمیوں سے اور نہیں پھرنا گناہوں سے اور نہ قوت عبادت کی مگر

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي رِزْقِي

ساتھ اللہ بزرگ و بزرگے یا اللہ کر دے میرے باطن کو

خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي

بہتر میرے ظاہر سے اور کر میرے ظاہر کو بھی

صَالِحَةً ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ

اچھا یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ اچھی چیز

مَا تَوَقَّيْتُ النَّاسَ مِنْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ

جو تو لوگوں کو دے مال ہو یا نہ

غَيْرِ ضَالٍّ وَلَا مِضِلٍّ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

یا اولاد کہ نہ گمراہ ہوں میں اور نہ گمراہ کرنے والا یا اللہ کرے ہمیں

مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْتَجِبِينَ الْغَيْرِ

اپنے منتخب بندوں میں سے جن کے چہرے

الْمُجْتَلِينَ الْوَقْدِ الْمُتَقَبِّلِينَ ۝ اللَّهُمَّ

اور اعضاء روشن ہوں گے جو مقبول مہمان ہوں گے یا اللہ

إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطَهَّرَةً

میں مانگتا ہوں تجھ سے ایسا نفس جو تجھ پر اطمینان رکھے

تَوْمِنٌ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَ

جو تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیرے حکم پر راضی رہے اور

تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

تیرے عطیہ پر قناعت رکھے یا اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ

دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

ہمیشہ رہے تیرے ہمیشگی کے ساتھ اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسے حمد کہ

مُتَدَاِمًا مَعَ تَدَاوُّدِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

مستمر رہے تیرے استمرار کے ساتھ اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ

لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ مِثْلَتِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

نہ ہو انتہی اس کی تیرے مثلت کے درے اور تیرے ہی لئے حمد ہے ایسی حمد کہ

لَا يُرِيدُ قَائِلَهُ إِلَّا رِضَاكَ وَوَلَكَ الْحَمْدُ

نہ قصد کرتا ہو کرنے والا اس کا مگر تیری خوشنودی کا اور تیرے لئے ہی ہے حمد

حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفُسٍ

حمد کثیر ہر پلک مارنے کے وقت اور ہر سانس لینے

كُلِّ نَفْسٍ ۚ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقَلْبِي

کے وقت یا اللہ متوجہ کر دے میرے دل کو

إِلَى دِينِكَ وَاحْفَظْ مِنْ وِرَائِنَا بِرَحْمَتِكَ ۚ

اپنے دین کا طرف اور حفاظت رکھ ہماری ادھر ادھر سے اپنی رحمت کے ساتھ

اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُنِي أَوْ أَرِكْهُنِي

یا اللہ ثابت قدم رکھ مجھے کہیں ٹوگ نہ جاؤں میں اور

اهْدِنِي أَنْ أَضِلَّ ۚ اللَّهُمَّ كَمَا حُلَّتْ

ہدایت کر مجھے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں میں یا اللہ جس طرح حائل ہے

بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي فَحُلْ بَيْنِي

تو مجھ میں اور میرے دل میں تو حائل رہ مجھ میں

وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِي ۚ اللَّهُمَّ

اور شیطان اور اس کے کام (اثر) میں یا اللہ

ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ

نصیب کر ہمیں اپنا فضل اور نہ محروم رکھ ہمیں اپنے رزق سے

وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا

اور برکت دے ہمیں اس رزق میں جو تو نے ہمیں دیا اور کرنا ہماری

فِي أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِي مَا

ہمارے دلوں میں اور کر دے رغبت ہماری اس چیز میں

عِنْدَكَ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ

جو تیرے پاس ہے یا اللہ کر دے مجھے ان لوگوں میں سے کہ انہوں نے توکل کیا

عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَأَسْتَهْدِكَ فَهْدِيتهُ

کیا تجھ پر پس تو کافی ہو گیا انہیں اور انہوں نے ہدایت مانگی تجھ سے پس تو نے ہدایت کر دی انہیں

وَأَسْتَنْصِرَكَ فَصَصِّرتهُ ۞ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

اور انہوں نے مدد چاہی تجھ سے پس تو نے مدد دی انہیں یا اللہ کر دے

وَسَاوِسَ قَلْبِي وَنَفْسِيكَ وَذِكْرَكَ

میرے دل کے خیالات کو اپنا خوف اور اپنی یاد

وَاجْعَلْ هِمَّتِي وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ

اور کر دے ہمت میری اور خواہش میری اس چیز میں جسے تو اچھا سمجھے

وَتَرْضَى ۞ اللَّهُمَّ وَمَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ مِنْ

اور پسند کرے یا اللہ اور جس بات میں تو امتحان کرے میرا خواہ

رُخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَمَسْكِنِي بِسُنَّةِ الْحَقِّ

آسانی ہو یا سختی تو مجھے رکھنے طریق حق

وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور شریعت اسلام پر یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ

نعمت کا پورا ہونا حمد چیزوں میں اور تیرا شکر

لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَى

ان پر یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور بعد راضی ہو جانے کے

الْخَيْرَةَ فِي جَمِيعِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْخَيْرَةُ

میرے لئے انتخاب کر تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے

وَجَمِيعِ مَلَسُورِ الْأُمُورِ كُلِّهَا لَا

اور انتخاب (سوال کرتا ہوں تیرے انتخاب کو) سب ہی اچھے کاموں کا نہ

بِمَقْسُورِهَا يَا كَرِيمُ ۝ اللَّهُمَّ فَالِقَ

بُرے کاموں کا لے کریم لے اللہ نکالنے والے

الرِّهْبَانِ وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَ

صبح کے اور بنانے والے رات کے آرام کا وقت اور

الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا قَوِّنِي عَلَى

سورج اور چاند کے مقیاس کا وقت توت لے مجھے

الْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

اپنی راہ میں لڑنے کی یا اللہ سے لے حمد ہے

فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى خَلْقِكَ وَ

تیری بلا اور تیرے برتاؤ میں اپنی مخلوق کے ساتھ اور

لَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى

تیرے ہی لئے حمد ہے تیری بلا اور تیرے برتاؤ میں ہمارے

أَهْلِ بُيُوتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ

گمراہوں کے ساتھ اور تیرے ہی لئے حمد ہے تیری بلا

وَصَنِيعِكَ إِلَى الْفُسِينَا نَفَاصَةً وَلَكَ

اور تیرے برتاؤ میں خاص ہماری جانوں کے ساتھ اور تیرے ہی لئے

الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا

حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت کی اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ

أَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا سَسَّرْتَنَا

تو نے ہمیں عزت دی اور تیرے ہی لئے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی

وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے قرآن شریف پر اور تیرے ہی لئے حمد ہے

بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ

اہل و مال پر اور تیرے ہی لئے حمد ہے درگزر کرنے پر

وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ

اور تیرے ہی لئے حمد ہے یہاں تک (اسی قدر) کہ راضی ہو جائے تو اور تیرے ہی لئے حمد ہے

إِذَا رَضِيتَ يَا أَهْلَ الثَّقُوفِ وَأَهْلَ

جگر راضی ہو جائے تو لے وہ ذات جس سے ڈرنا چاہیے اور لے وہ کہ لاف ہے

الْمَغْفِرَةِ ۖ اللَّهُمَّ وَفِقْنِي لِمَا تَحِبُّ وَ

گناہوں کے معاف کرنے والے یا اللہ توفیق دے مجھ اس چیز کا جسے تو اچھا سمجھے اور

تَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ وَ

پسند کرے قول ہو وہ یا عمل یا فعل یا

النِّيَّةِ وَالرَّهْدِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط

نیت یا طریق بہ شک تو ہر چیز پر قادر ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَقِيلٍ قَاكِرٍ

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے مکار دوست سے کہ

عَيْنَاهُ تَرِيَانِي وَقَلْبُهُ يُرْعَانِي ط إِنَّ تَرَايَ

آنکھیں تو اس کی مجھے دیکھتے ہیں اور دل اس کا مجھ چومے لیتا ہو۔ اگر دیکھے

حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ تَرَايَ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا ط

بھلائی تو دبا دے اور اگر دیکھے برائی تو فاش کرے اسے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَ

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری شدتِ فتنہ اور

الْتِبَآؤُسِ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

بہت محتاج سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

شیطان سے اور اس کے لشکروں سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

عورتوں کے فتنہ سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

مَنْ أَنْ تَصُدَّ عَنِّي وَجِبَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

اس سے کہ نہ پھرے تو مجھ سے قیامت کے دن

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينِي

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس عمل سے کہ رسوا کر دے مجھے

وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِينِي

اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس ساتھی سے کہ تکلیف دے مجھے

وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يُيَاهِنِينِي وَ

اور پناہ چاہتا ہوں تیری ہر ایسے منصوبے کے غافل کر دے مجھے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُتْسِينِي وَ

پناہ چاہتا ہوں تیری ہر ایسے فقر سے کہ بھول میں ڈالے مجھے اور

أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غِنًى يُكْفِينِي ۖ

پناہ چاہتا ہوں تیری ہر اس مالداری سے کہ دماغ چلا دے میرا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْتِ الرَّهْمِ

یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری فکر کی موت سے

وَاعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْتِ الْعَنَمِ ۝

اور پناہ چاہتا ہوں تیسری عنم کی موت سے

الْمُنْزِلُ السَّابِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ساتویں منزل کے بروز جمعہ

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ۝ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ يَا

يارب يارب يارب يا الله لك كبير لك

سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا

سمیع کے بصیر کے وہ کہ نہیں ہے شریک اس کا اور نہ

وَزِيرُ لَهُ وَيَا خَالِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کوئی مشیر اس کا اور لے پیدا کرنے والے آفتاب و مہتاب

الْمُنِيرُ وَيَا عِصْمَةَ الْبَائِسِ الْخَائِفِ

روشن کے اور لے پناہ مصیبت زدہ ترسان

الْمُسْتَجِيرِ وَيَا رَازِقَ الْوَسْطِيِّ الْوَهْفِ

پناہ جو کے اور لے روزی پہنچانے والے ننھے بچہ کے

وَيَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ أَوْعُوكَ دُعَاءِ

اور لے جوڑنے والے ٹوٹی ہڈی کے میں مانگتا ہوں تجھ سے مانگنا

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ كَدُّعَاءِ الْمُضْطَرِّ

مصیبت زدہ محتاج کا سا مثل مانگنے بے تدار

الضَّرِيرِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ

آفت زدہ کے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بوسیلہ بندہ نے عزت کے تیرے

عَرْشِكَ وَبِمَفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ

عرش میں سے اور بوسیلہ رحمت کی کنجیوں کے تیری کتاب میں سے

وَبِالْأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى

اور بوسیلہ ان آٹھ ناموں کے جو لکھے ہوئے ہیں

قَرْنِ الشَّمْسِ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعِيَّ

ربیع آفتاب پر یہ کہ کر دے تو قرآن شریف کو بہار

قَلْبِي وَجَلَاءَ حُزْنِي بِرَبِّنَا اتِّسَافِي الدُّنْيَا

میرے دل کی اور کشائش میرے غم کی اے رب ہمارے ہے ہیں دنیا میں

كَذَا وَكَذَا يَا مُوسَى كُلِّ وَعِيدٍ وَيَا

فلاں فلاں چیر اے غم گسار ہر اکیلے کے اور اے

صَاحِبِ كُلِّ فَرِيدٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ

سامنے ہر تنہا کے اور اے قریب جو بعید

بَعِيدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا

نہیں اور اے حاضر جو غائب نہیں اور اے غالب

غَيْرَ مَغْلُوبٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا

جو مغلوب نہیں اے حئی اے قیوم اے

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَ

بزرگی اور عزت والے لے نور آسمانوں اور

الْأَرْضِ وَيَا زَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

زمینوں کے اور لے زینت آسمانوں اور زمینوں کے

يَا جَبَّارَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَوَاتِ

لے انتظام رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے لے تھامنے والے آسمانوں

وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا

اور زمینوں کے لے موجد آسمانوں اور زمینوں کے اور لے

قِيَامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ

قائم رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے لے بزرگی

وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيحَ الْمُسْتَضْمِرِينَ وَمُنْتَهَى

اور عزت والے لے داد رسی سر یادگیوں کے اور آخری دور

الْعَائِدِينَ وَالْمُفْرَجِ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ

پسناہ مانگنے والوں کے اور کشائش دینے والے بے چینوں کے

وَالْمُرَوِّحِ عَنِ الْمُغْمُومِينَ وَجُجِبِ

اور راحت دینے والے غم زدوں کے اور قبول کرنے والے

رُعَاءِ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا كَاشِفَ الْمَكْرُوبِ

دعا بے قراروں کے اور لے کشائش دینے والے صاحب کرب (کرب زدہ) کے

يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے الٰہ العالمین اور اے ارحم الراحمین

مَنْزُولٌ بِكَ كُلُّ حَاقِبَةٍ ۝ اللَّهُمَّ

تیرے ہی سامنے پیش کی جاتی ہے ہر حاجت یا اللہ

إِنَّكَ خَلَقْتَ عَظِيمٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَظِيمٌ

تو خلاق عظیم ہے تو سنا جاتا ہے

إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّكَ رَبُّ

تو غفور رحیم ہے تو مالک ہے

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ

عرش عظیم کا یا اللہ تو محسن ہے صاحب جود

الْكَرِيمُ الْغَفُورُ وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَ

صاحب کرم ہے بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور امن دے مجھے اور

ارزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَابْبُرْنِي وَارْفَعْنِي

رزق دے مجھے اور پردہ پوشی کر میری اور جبر نقصان کر میرا اور رفت دے مجھے

وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ

اور ہدایت دے مجھے اور گمراہ نہ کر مجھے اور داخل کر مجھے جنت میں

بِرُحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَيْكَ رَبِّ

اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین اے رب اپنا

فَجَبَّبْنِي وَفِي نَفْسِي لَكَ فَذَلَّلْنِي وَفِي

بنائے مجھے اور میرے دل میں اپنے مقابلہ میں سزا برداری ڈال دے اور

أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَمِنْ سَيِّئِ

لوگوں کی نظر میں عظمت دے مجھے اور بُرے

الْأَخْلَاقِ فَجَبَّبْنِي ۖ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ

اخلاق سے بچا دے مجھے یا اللہ فرمائیں کہ ہے تو نے ہماری

الْأَنْفُسَ مَا لَا نَمْلِكُ إِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا

ذات سے ان اعمال کی کہ ہم اس پر اختیار نہیں رکھتے بدون تیری توفیق کے تو نے دے ہمیں

مِنْهَا مَا يُرِضِيكَ عَنَّا ۖ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ان میں سے اس عمل کی توفیق کہ راضی کر دے تجھے ہم سے یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے

رَأْمَانًا دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا نَافِسًا وَ

ایمان ہمیشہ رہنے والا اور مانگتا ہوں تجھ سے دل خشوع کرنے والا اور

أَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دِينًا

مانگتا ہوں تجھ سے یقین سچا اور مانگتا ہوں تجھ سے دین

قِيمًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ

راست اور مانگتا ہوں تجھ سے امن ہر بلا سے

وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ

اور مانگتا ہوں تجھ سے ہمیشہ رہنا امن کا اور مانگتا ہوں تجھ سے

الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى

شکر امن پر اور مانگت ہوں تجھ سے بے پرواہی

عَنِ النَّاسِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا

لوگوں سے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی

تَبُّتُ إِلَيْكَ مِنْكَ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَ

جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اے کیا ہو اور

أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ تَفْسِي

معافی چاہتا ہوں تجھ سے اس عہد کی جو میں نے تجھ سے اپنی جانب سے دیا ہو

ثُمَّ لَمْ أَوْفِ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ

اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو اور معافی چاہتا ہوں تجھ سے ان نعمتوں

الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَ

کے بارہ میں جن سے قوت حاصل کی میں نے تیرے گناہ پر اور

أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَفِيرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ

معافی چاہتا ہوں تجھ سے ہر اس نیکی کے بارہ میں کہ کرنا چاہا میں نے اس کو خالص تیرے لئے

فَمَا لَطَمَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ ۚ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي

پھر مل گئی اس میں وہ چیز جو خالص تیرے لئے نہ تھی یا اللہ رسوا نہ کرنا مجھے

فَأَنَّكَ بَنِي عَالِمٍ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ

کیونکہ تو مجھ کو جانتا ہے اور مت عذاب کرنا مجھ کو کیونکہ تو

عَلَى قَادِرٍ ۝ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

مجھ پر قادر ہے اے اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں کے

وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ اكْفِنِي

اور پروردگار عرش عظیم کے یا اللہ کافی ہو جا تو مجھے

كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ وَمِنْ أَيْنَ

ہر مہم میں جس طرح سے چاہے تو اور جس جگہ سے

شِئْتُ حَسْبِيَ اللَّهُ لِدِينِي حَسْبِيَ اللَّهُ

چاہے تو کافی ہے مجھ کو اللہ میرے دین کے لئے کافی ہے مجھ کو اللہ

لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا أَهَمَّنِي حَسْبِيَ

میرا دنیا کے لئے کافی ہے اللہ میرے کل فکروں کے لئے کافی ہے مجھ کو اللہ

اللَّهُ لِمَنْ أَيْغَى عَنِّي حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنِي

اس شخص کیلئے جو مجھ پر زیادتی کرے کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کیلئے جو مجھ سے حسد کرے

حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ حَسْبِيَ اللَّهُ

کافی ہے مجھ کو اللہ اس شخص کیلئے کہ فریب دے مجھے بُرائی کیساتھ کافی ہے مجھ کو اللہ

عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ فِي

موت کے وقت کافی ہے مجھ کو اللہ قبر میں سوال کے

الْقَبْرِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ

وقت کافی ہے مجھ کو اللہ میزان کے پاس کافی ہے مجھ کو

اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ

اللہ ہی صراط کے پاس کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں ہے کوئی مبود

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

سوائے اس کے اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہی رب ہے عرش

الْعَظِيمِ ۚ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ثَوَابَ

عظیم کا یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ثواب

الشَّاكِرِينَ وَنَزَلَ الْمُقْرَبِينَ وَمُرَافِقَةَ

شکر والوں کا سا اور یہاں مقربین کی سی اور ہمراہی

النَّبِيِّينَ وَيَقِينِ الصِّدِّيقِينَ وَذِلَّةَ

انبیاء علیہم السلام کی اور یقین صدیقوں کا سا اور تواضع

الْمُتَّقِينَ وَإِنْجَابَاتِ الْمُؤَقِنِينَ حَتَّى

متقین کی سی اور غشوع یقین والوں کا سا یہاں تک کہ

تَوْفَانِي عَلَى ذَلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۚ

وفات دے مجھے تو اس حال پر لے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بوجہ تیرے سابقہ انعام کے

عَلَيَّ وَبِلَايِكَ الْحَسَنِ الَّذِي أَبْلَيْتَنِي

مجھ پر بوسیله اس اچھے امتحان کے جس سے امتحان بیا ہو تو نے

بِهِ وَفَضْلِكَ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَيَّ أَنْ

میرا اور بوسیدہ تیرے اس فضل کے جو تو نے فضل کیا ہو مجھ پر یہ کہ

تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ ۝

داخل کر مجھے جنت میں اپنے احسان اور فضل اور رحمت سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَهُدًى

یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ایمان ہمیشہ رہنے والا اور ہدایت

قِيَمًا وَعِلْمًا نَافِعًا ۝ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ

ستحکم اور علم نافع یا اللہ نہ کر

لِفَضَائِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً أَكْفِيهِ بِهَا فِي

کسی بدکار کا مجھ پر کوئی احسان کہ مکافات کرنی پڑے مجھ کو اس کی

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي

دنیا اور آخرت میں یا اللہ بخش دے میرے گناہ

وَوَسِّعْ لِي خَلْقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَ

اور وسیع کر دے میرا خلق اور حلال کر دے میرا کسب اور

قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلَا تُذْهِبْ طَلِبِي

قناعت دے مجھے اس چیز پر جو تو نے مجھے دی اور نہ لے جا طلب میری کسی ایسی

إِلَى شَيْءٍ بِصَرْفَتِكَ عَنِّي ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

چیز کی طرف جس کو تو نے مجھ سے ہٹایا ہو یا اللہ میں

اَسْتَجِيرُكَ مِنْ جَمِيعِ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ

تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کیں

وَ اَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَ اجْعَلْ لِي

اور تیری حفاظت میں آتا ہوں ان سے اور کر میرے لئے

عِنْدَكَ وَ لِيُجِبَهُ وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ

اپنے یہاں دخل اور کر میرے لئے اپنے یہاں

زُلْفَى وَ حُسْنَ مَآبٍ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ

قرب اور رجوع نیک اور کر مجھے ان لوگوں میں سے کہ

يَخَافُ مَقَامَكَ وَ وَعِيدَكَ وَ يَرْجُو

ڈرتے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیرے وعید سے اور تمنا رکھتے ہیں

لِقَاءَكَ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ اِلَيْكَ

تیرے وصال کے اور کر مجھے ان لوگوں میں سے کہ توبہ کرتے ہیں تیری طرف

تَوْبَةً نَّصُوحًا وَ اَسْأَلُكَ عَمَلًا

توبہ (رجوع) خالص اور مانگتا ہوں میں تجھ سے عمل

مُنْقَبَلًا وَ عِلْمًا تَجِبًا وَ سَعْيًا شُكْرًا

مقبول اور کارآمد (کارکش) اور سعی مشکور

وَ تِجَارَةً لَكَ تَبَوَّرَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

اور تجارت جس میں کھانا نہ ہو یا اللہ میں

أَسْأَلُكَ فَكَأَنَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ۞

مانگتا ہوں تجھ سے اپنی جان بخشی دوزخ سے

اللَّهُمَّ أَعِزِّي عَلَى عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ

یا اللہ مدد کر میری موت کی بے ہوشیوں اور موت کی

المَوْتِ ۞ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَ

سمجھتیوں پر یا اللہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور

الْحَقُّنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي

شامل کر مجھے اعلیٰ رفیقوں میں یا اللہ میں

أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ

پناہ چاہتا ہوں تیری اس سے کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں

أَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَفْهِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِم

اس کو میں جانتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں تجھ سے اسکی کہ میں اسے نہ جانتا ہوں

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَدْعُو عَلَيَّ رَحِمٌ

اور پناہ چاہتا ہوں تیری کہ بد دعا دے مجھے کوئی رشتہ دار جس سے

قَطَعَتْهَا ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

میں نے قطع رحم کیا ہو یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری اسی

شَرِّ مَنْ يَمْسِسُنِي عَلَى بَطْنِيهِ وَمِنْ شَرِّ

جوان کی برائی سے کہ پیٹ کے بل چلتا ہے اور اس حیوان کی

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ

بُرَائِي سَے کہ دو پیروں سے چلتا ہے اور اس حیوان کی

مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

بُرَائِي سَے کہ چار پیروں سے چلتا ہے يَا اَللّٰهُ

أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ تَشْتَبِيَنِي قَبْلَ

پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی عورت سے کہ مجھے بوڑھا کرے بوڑھاپے

الْمَشْيِبِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وُلْدٍ

سے پہلے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی اولاد سے

يَكُونُ عَلَيَّ وَ بَالًا ۝ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

کہ ہو مجھ پر وبال اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے

مَا لِي يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا ۝ اللَّهُمَّ

مال سے کہ ہو مجھ پر عذاب يَا اَللّٰهُ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِي

میں پناہ چاہتا ہوں تیری شک لانے سے

الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

حق بات میں بعد یقین کے اور پناہ چاہتا ہوں تیری

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ

شیطان مردود سے اور پناہ چاہتا ہوں تیری

شَرَّ يَوْمٍ الدِّينِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ

سختی روز جزا سے یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری

مِنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَمِنْ كُدْرِغِ

ناگہانی موت سے اور سانپ کے

الْحَيَّةِ وَمِنْ السَّبْعِ وَمِنْ الْغَرَقِ وَمِنْ

کاٹنے سے اور درندے سے اور ڈوبنے سے اور

الْحَرَقِ وَمِنْ اَنْ اَخْرَجَ عَلٰى شَيْءٍ وَّ

جل جانے سے اور اس سے کہ گر پڑوں کسی چیز پر اور

مِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الرَّحْمٰتِ :

مارے جانے سے شکر کے بھاگنے کے وقت

ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ الْخْتِمِ

پھر منزل ختم کے بعد کہ

وَتَقْبَلُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ فِيْ حَقِّ

اور قبول کر ان دعاؤں کو (حضرت مولانا)

مُحَمَّدٌ اَشْرَفُ عَلٰى وَّعَبْدُ الْوٰاسِعِ

محمد اشرف علی (صاحب) مؤلف اور عبد الواسع (تالیم)

وَمُحَمَّدٌ مُصْطَفٰى وَ مُحَمَّدٌ عَلٰى

اور حکیم محمد مصطفیٰ مترجم اور قاضی محمد علی صاحب ترجمہ

وَمُحَمَّدٌ شَفِيعٌ وَمُحَمَّدٌ اِقْبَالُ قُرَيْشٍ

اور محمد شفیع ناظم اشاعت دیوبند اور محمد اقبال قریشی

وَفِي حَقِّ اَبَائِهِمْ وَاَقْرَبَاتِهِمْ وَجَمِيعِ

اور ان کے ماں باپ اور تمام

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَصَلَّى

مؤمنین و مؤمنات کے حق میں اور رحمت

اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ ۚ وَالْكَرِيمِ

کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ سرور کائنات پر اور بہترین

الْمَلَأُوْقَاتِ ۚ صَلَوَةٌ تَسْبِقُ الْغَايَاتِ ۚ

مخلوقات پر ایسی رحمت کہ گزر (بڑھ) جائے انتہاؤں سے





@TaleefatHakeemUlUmmatThanvi

ایڈمن
محمد طلحه نذیر

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَمَيِّنَ فِي الدَّعَا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں الحاج کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں

چوں حدیث دال است بمنطوقہ بر محبوبیت الحاج اندیشاں

حدیث پاک الحاج کرنے والوں کی محبوبیت پر دال ہے۔

و لمفہومہ بر مقبولیت دعا ایشاں و مشاہدہ بر بودن عشاق اکمل ایں

اور اسی مفہوم سے ان کی دعا کی مقبولیت واضح ہے اور ان شکستہ دلوں کے کامل عشاق

دل ریشاں و تیار بخ بر بودن عارف رومی از اعظم عشق کیشاں

ہونے پر دال ہے اور تیار بخ عارف رومی جیسے بڑے عشاق کی عظمت پر گواہ ہے

و مجموعہ دلائل بر استجابت ابیات دعائیہ مثنوی معنوی بناء علیہ

اور مثنوی معنوی کے دعائیہ اشعار کی مقبولیت بھی ان دلائل سے ظاہر ہے

ایں نوع ابیات را کہ طعنت است بر ہفت احزاب دعائے

اس قسم کے دعائیہ اشعار کو ہفت احزاب کا نام دیا گیا ہے مولوی

مثنوی آنکہ خود فرمود دروے مولوی

رومی نے خود اس بارے میں فرمایا ہے۔

اک دعائے بیخوداں خود دیگر است آل دعا زونیت گفت داورا است

بیخودوں کی دعا دوسری ہی چیز ہے وہ دعا ان کی نہیں ہے خدا کی بات ہے

آں دعا حق میکند چوں اوقفا است آل دعا و آل اجابت از خدا نیست

جکہ وہ بے خود مقام فنا میں ہے وہ دعا اللہ فرماتا ہے وہ دعا اور قبولیت خدا کی جانب سے ہے

آں دعائے شیخ نے پوں ہر دعا ست فانی ست وگفت اوگفت خدا ست
 کیونکہ وہ شیخ کی دعا ہر دعا کی طرح نہیں ہے فانی ہے اور اس کی بات خدا کی بات ہے
 پوں خدا از خود سوال وگد کند پس دعائے خوشی تن پوں رد کند
 جب خدا اپنے آپ سے سوال کرے اور مانگے تو وہ اپنی دعا کو کیسے رد کرے گا۔
 حضرت حکیم الامت مولانا مولوی اشرف علی تھانوی بطور تہنہ مناجات مقبول جمع کنید
 حضرت حکیم الامت مولانا مولوی اشرف علی تھانوی نے بطور تہنہ مناجات مقبول جمع کیا

منازل سبعاہیات مشنوی معنوی

منازل اول روز شنبہ

پہلے منزلے بروز ہفتہ

اے کینہ بخشش ملک جہاں من چہ گویم پوں تو میدانی مہاں
 اے کہ دنیا کی سلطنت تیری مہولی بخشش لے میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ بات جانتا ہے
 حال ما و ایں خلایق سر بسر پیش لطف عام تو باشد ہدر
 ہمارا اور ان مخلوقات کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بے کار ہے
 اے ہمیشہ حاجت مارا پناہ بار دیگر مانعہ کر دیم راہ
 اے وہ کہ ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے راستہ سے ہم پھر بھٹک گئے
 بیک گفتی گر چہ میداغم سرت زودم پیدا کنش بر ظاہرت
 لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا بھید جانتا ہوں تو بھی جلد اسکو اپنی ظاہری حالت کے مطابق بیان کر دے

صد ہزاراں دام و دانہ است ایسے خدا ماچوں مرغان حریص بے نوا

اے خدا لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں

دم بہ دم پالستہ دام توایم ہریکے گر باز و سیرغ شویم

ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں اگرچہ ہم سب باز اور سیرغ بن جاؤں

مکار ہائی ہر دمے مارا و باز سوئے دامے سے رویم اے بے نیاز

تو ہمیں ہر وقت چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں اے بے نیاز

مادریں انبار گندم سے کنیم گندم جمع آمدہ گم سے کنیم

ہم اس بوئے میں گندم بھرتے ہیں جمع شدہ گیہوں کو گم کر دیتے ہیں

می نیندیشم ما جمع و خوشش کیس نخل در گندم ست از مکر موش

جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو گیہوں میں یہ کمی جو ہے کہ مکاری سے ہے

موش تا انبار ما حفرہ زدہ است و ز فتنش انبار ما خالی شدہ است

چو ہے نے ہمارے ذخیرہ میں سوراخ کر دیا ہے اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہوا ہے

چوں عنایاتت شود با ما مقسیم کے بود نیچے ازاں دزدیسم

جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی تو اس کینے چور کا ڈر کم ہو سکتا ہے

گر ہزاراں دام باشد ہر قدم چوں تو با مائی نباشد یہ صبح غم

اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں

نالہ کردم کاٹے علام الغیوب زیر سنگ مکر بد مارا مکوب

میں نالہ کرتا ہوں اے اللہ تو غیب کا جاننے والا ہے ہمیں بے مکر کے پتھر کے نیچے نہ کھیل۔

یا کریم العفو۔ ستار العیوب انتقام از ماکش اندر ز نوب

لے معافی کے داتا عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے گناہوں کا ہم سے بدلہ نہ لے

آنچہ در کون ست اشیاء آنچہ هست و اما جاں را بہر حالت کہ هست

موجودات میں جو چیزیں بھی دنیا میں ہیں وہ اس حالت میں ظاہر کرے جس پر وہ ہی

گر مگے کر دیم لے شیر آفریں شیر را مگسار بر مازیں کیس

لے شیر کو پیدا کرنے والے اگرچہ ہم نے کتاب کیا ہے اس کتاب کی وجہ سے شیر کو ہم پر مسلط نہ کر

آب خوش را صورت آتش مدہ اندر آتش صورت آبی منہ

اچھے پانی کو آگ کی صورت میں نمایاں نہ کر، آگ میں پانی کی صورت نہ رکھ

از شراب قہر چون مستی دہی نیستہا را صورت مستی دہی

قہر کی شراب سے جیہ تو مست کر دیتا ہے معدوم چیزوں کو موجود کی صورت میں دیتا ہے

تو بن یا ربنا آبِ ظہور تا شود این نار عالم جہلمہ نور

لے ہمارے رب تو پاک پانی چھڑک تاکہ یہ دنیا کی آگ سب نور بن جائے۔

کوہ و دریا جملہ در فرمان تست آب و آتش لے خداوند آن تست

پہاڑ اور دریا سب تیرے حکم کے ماتحت ہیں لے خدا پانی اور آگ تیرے ملکیت ہے

گر تو خواہی آتش آب خوش شود ورنخواہی آب ہم آتش شود

اگر تو چاہے آگ عمدہ پانی بن جائے اگر تو نہ چاہے تو پانی بھی آگ بن جائے

لے طلب تو ای طلب ماں دادہ گنج احساں بر ہمہ بکشادہ

بغیر مانگے تو نے ہمیں مراد ہی دکا ہی ان گنت اور بے شمار تو نے انعام فرمائے ہیں

بے شمار وعد عطا بنہادہ باب رحمت برہمہ بکشادہ

تو نے ان گنت اور بے حد نعمتیں عطا فرمائیں تو نے سب پر رحمت کا دروازہ کھولا ہے

با طلب چوں ندی اے حتی و دود کز تو آمد جملگی خود و وجود

اے حتی و دود تو مانگے پر کیوں نہ دے گا جبکہ تمام بخشش اور ہستی تیری ہی طرف سے ہے

در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کر دی عطا ہائے عجب

عدم میں کب ہمارا مطالبہ تھا تو نے بغیر مانگے عجیب نعمتیں عطا کر دیں

جان و ناں داری و عمر جاوداں ساہرہ نعمت کہ ناید در بیان

جان رزق ادا ابدی زندگی عطا فرمائی ادا باقی نعمتیں جن کا بیان ناممکن ہے

ایں طلب در عاہم از ایجاد تسرت رستن از بیدار باریب داد تسرت

یہ ہمارا مانگنا بھی تیری ہی ایجاد ہے اے خدا ظلم سے نجات پانا تیری عطا ہے

بے طلب ہم سے ہسی گنج نہاں رائگاں بخشیدہ جان جہاں

تو بغیر مانگے پوشیدہ خزانے دیتا ہے تو نے دنیا کو جان مفت بخشی ہے

هَكَذَا النِّعْمُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ

جنت میں جانے تک اسی طرح انعام فرما رہے سرور کائنات مصطفیٰ علیہ السلام کے طفیل میں

اے خدا اے قادر بے چند و چوں واقفی بر حال بیرون و دروں

اے خدا اے قدرت والے کیفیت اور کیفیت سے تو ظاہری اور باطنی حالت سے واقف ہے

اے خدا افضل تو حاجت روا تو یاد و یسوع کس نہ بود روا

اے خدا اے وہ ذات کہ تیری عنایت حاجت روا ہے تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں ہے

ایں قدر ارشاد تو بخشیدہ تابدیں بس عیب ما پو شیدہ

اس قدر رہنمائی تو نے بخشی ہے جس سے تو نے بہت سے عیب ڈھک دیئے

قطرہ دانش کہ بخشیدی ز پیش متصل گرداں بد یا ہائے خویش

پہلے سے تو نے جو علم کا قطرہ بخشا ہے اس کو اپنے دریاؤں سے ملا دے

قطرہ علم است اندر جان من وارہ نش از ہوا وز خاک من

میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے اس کو خواہش اور جسم کی مٹی سے بچا دے

پیش از اں کایں خاکہا نفسش کند پیش از اں کایں بادہا نفسش کند

اس سے پہلے کہ یہ تھیاں اس کو دھنا میں اس سے پہلے کہ یہ ہوائیں اس کو سکھائیں

گرچہ چون نفسش کند تو قادر کا کش از ایساں داستانی و آخری

اگرچہ تو اس پر قادر ہے کہ جب وہ اس کو سکھائیں کہ اس کو تو ان سے واپس لے لے

قطرہ کو در ہوا شد کہ ریخت از خزینہ قدرت تو کے گریخت

وہ قطرہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہہ گیا تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے

گرد آید عدم یا صد عدم بچوں بخوانیش او کند از سرفتم

اگر وہ عدم یا سو عدموں میں آجائے جب تو اسے بلائے وہ سر کے بل آئے

صد ہزاراں قید ضد را میکشد باز شاں فضل تو بیروں میکشد

لاکھوں متضاد چیزیں متضاد چیزوں کو فنا کرتی ہیں پھر تیرا فضل ان کو باہر نکال لاتا ہے

از عدم ہا سوئے ہستی ہر زماں ہست یارب کارواں در کارواں

ہر وقت عدموں سے وجود کی طرف لے خدا قافلہ در قافلہ رواں ہے

خاصہ ہر شب جملہ افکار و عقول نیست گرد و غرق در بگر نفول

خصوصاً ہر بات تمام فکریں اور عقلیں نیند کے سمندر میں غرق ہو کر معدوم ہو جاتی ہیں

منزلے دوم بروز یک شنبہ

دوسری منزل بروز اتوار

اے خدا اے باعطاء و با وفا رحم کن بر عمر رفتہ بر جفا

اے خدا تو کہ عطا والا اور با وفا ہے اس زندگی پر رحم کرے جو ظلم میں بسر ہوئی

دادہ عمرے کہ ہر روزے ازاں کس نداشت قیمت آل در جہاں

تو نے جو عمر دی ہے اس کے ہر دن کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا

خرچ کر دم عمر خود را دم بدم دردمیدم جملہ را در زیر و بم

میں نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ خرچ کر دیا اور زیر و بم میں سب کو پھونک دیا

اے خدا فریاد ازیں فریاد خواہ داد خواہ ہم نے نہ کس زیں داد خواہ

اے خدا اسی فریادی سے فریاد ہے انصاف چاہتا ہوں لو کسی سے نہیں اسی داد خواہ سے

داد خود توں من ندادم در جہاں عمر شد ہفتاد سال از من جہاں

جو تکہ میں نے خود اپنے آپ سے اس جہان میں انصاف نہیں کیا میری ستر سال کی عمر بے کار گزر گئی

داد خود از کس نیابم جسز مگر زانکہ ہست از من بہ من نزدیک تر

اپنا انصاف کسی سے نہ حاصل کر سکوں گا مگر اس کے جو خود میری ذات سے زیادہ قریب ہے

ایں چہ نقل است اے خدا بر گردنم ورنہ نخل باشد کہ گوید من متم

اے خدا میری گردن میں یہ کیسا طوق ہے اگر طوق نہ ہو تو میں میں ہوں کون ہے

زبان کہ خاصاں را تو مدد و کردہ ماہ جانم را سیرہ رو کردہ

جس طرح اہل خواص کو قونے چاند کی شکل کر دیا ہے میری جان کے چاند کو سیرہ رو کر دیا ہے

خواجہ ماشانیم آما تیشہ است مے شگافد شاخ را ہر نشہ است

ہم ایک آقا کے غلام ہیں لیکن تیرا کلباڑا تیرے جنگل میں شاخ میں شگاف لگا تا ہے

باز شاخے را موصل مے کنی شاخ دیگر را معطل مے کنی

پھر ایک شاخ پر پیوند چڑھا دیتا ہے اور دوسری شاخ کو بے کار کر دیتا ہے

حق آں قدرت کہ آں تیشہ نماست از کرم کن ایں گزہ بہار انور است

اس قدرت کے طفیل جو کہ تیرا کلباڑا ہے کرم کر کے ان بچیوں کو سیدھا کر دے

اے خداوند ایں خم و کوزہ مرا در پذیر از فضل اللہ اشترے

اے خدا میرے اس ٹیکے اور کوزے کو اللہ اشتری کی مہربانی سے قبول کر لے

اے خدا بنما تو جان را آں مقام کا ندر و بے حرف مے روید کلام

اے خدا میری جان کو وہ مقام دکھا دیجئے جہاں کہ بے حرف کے کلام پیدا ہوتے ہیں یعنی عالم غیب کی تجلیات خاصہ

تا کہ سازد جان پاک از سرفتم سوے عرضہ دور پہنا سے علم

تا کہ جان پاک عارف سر کو قدم بنا کر عالم غیب کے فرخ میدان میں روحانی سیر کرے

اے محب عفو انما عفو کونے اے طیب رنج ناصور کہن

اے عفو کو محبوب رکھنے والے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمادے اے طیب رنج ناصور (خلاق) اشفاق

پر وہ اے ستار از ما دانگید باش اند امتحان مارا مجید

اے گن ہود کے چھانے والے اپنی ستاریت کا پردہ ہم سے سبب ہماری شامت اعمال کے نہ ٹہلے اور موقع امتحان

یارب ایس جرات ز بندہ عفو کن تو بہ کرم من نگیرم زیں سخن

اے خدا بندہ کی اس جرات کو معاف کرے میں نے تو بہ کی میری اس بات پر گرفت نہ کر

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَفِيثِينَ اهْدِنَا لَّا اَفْتَحَارُ بِالْعُلُومِ وَالْفَنَانَا

اے فریادوں کے فریاد زدگرم کو ہدایت دے علوم اور مالداری اس پر غم نہ نہیں

لَا تُرِغُوا قُلُوبَنَا هَدَيْتَ بِالْكَرَمِ وَاصْرِفِ السُّوءَ الَّذِي فِي طَبَعِ الْقَائِمِ

کرم کر کے جس کو تو نے ہدایت دی اس کو نہ کر اور اس برائی کو پھیر دے جو قلم نے لکھ دی ہے

بگڑاں از جان ماسوء القضاء و امبر مار از اخوان الصفا

بڑی تقدیر کو ہماری جان سے مال دے ہمیں اہل الشد سے جدا نہ کر

تلخ تر از فرقت تو پیچ نیست بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست

تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں تیری پناہ کے بغیر سوائے الطعن کے کوئی غیر نہیں ہے

رحمت ماہم رخت مارا رہزن جسم ماہر جان مارا جامہ کرنے

ہمارا سامان بھی ہمارا رہزن ہے ہمارا جسم ہی ہماری جان کے لئے نقصان رسا ہے

دست ماچول پائے مارا میخورد بے اماں تو کسے جاں کے برد

جب ہمارا ہاتھ ہی ہمارے پاؤں کو کھاتا ہے تیری اماں کے بغیر کوئی کس طرح جان بچا سکتا ہے

در برد جان زیں خطر لائے عظیم بردہ باشد ماہر ادبار و بیم

اگر ان بڑے خطروں سے جان بھی بچالی تو بد بختی اور خوف کا سرمایہ حاصل کیا

چوں تو نہ ہی راہ جان خود بردہ گیر جاں کہ بے تو زندہ باشد مردہ گیر

جب تو راستہ نہ جانے کا بچانا فرضی بات ہے جو جان تیرے بغیر زندہ ہو اس کو مردہ سمجھنا چاہیے

گر تو طعنہ سے زنی بر بندگاں مہر تر آں سے رسدے کامراں

اگر تو بندوں پر طعنہ زنی کرے لے مختار یہ تیرا حق ہے

ور تو ماہ و مہر را گوئی خفا ورتو قد سرو را گوئی دو تا

اگر تو چاند اور سورج کو مخفی کہے اگر تو سرد کے قد کو جھکا ہوا کہے

ور تو چرخ و عرش را گوئی حقیر ورتو کان و بحر را گوئی فقیر

اگر تو آسمان اور عرش کو حقیر کہے اگر تو سرد کے قد کو جھکا ہوا کہے

آں بہ نسبت با کمال تو رواست ملک و اقبال و غنا ہا مہر تراست

یہ بات تیرے کمال کے پیش نظر درست ہے مکمل کرنے اور فنا کرنے کی ملکیت تیرا ہے

کہ تو پاکی از خطر ذیستی نیستاں را موجد و مقنیستی

کیونکہ تو عدم اور نسبت سے پاک ہے مدوم کو موجود کرنے والا اور فنا کرنے والا ہے

ماہر مصنو عظیم و صانع نیستم جز زبوں و جز کہ قانع نیستم

ہم چونکہ بنائے ہوئے ہیں اور بنانے والے نہیں ہیں سو انے ناچیز اور سو انے ادنیٰ درجے کے قانع ہونیکے کچھ نہیں ہیں

ماہر نفسی و نفسی ماہر نیستم گر نخواہی ماہر ماہر عظیم

ہم سب نفسی نفسی پکارتے ہیں اگر تو نہ چاہے ہم سب شیطان ہیں۔

زاں زاہر میں رسیدستم ما کہ خریدی جان مارا از عمی

ہم نے شیطان سے اس لئے رٹائی پائی ہے کہ تو نے ہماری جان کو اندھے پن سے بچا لیا

تو عصا کش ہر کر کہ زندگی مست بے عصا و بے عصا کش کو رحمت

جس کی زندگی تو اس کیلئے لاکھی پکڑنے والا ہے لاکھی اور لاکھی پکڑنے والے کے بغیر اندھا کیا

غیر تو ہر چیز خوش است ناخوش است آدمی نخواست و عین آتش است

تیرے سوا جو کچھ بھی ہے خواہ اچھا ہے یا بُرا ہے آدمی کو جلانے والا اور مجسم آگ ہے

ہر کرا آتش پناہ و پشت شد ہم مجوسی گشت وہم زردست شد

جس کیلئے آگ پشت و پناہ بن گئی وہ آتش پرست اور آتش پرستوں کا پیشوا بن گیا

كُلُّ شَيْءٍ سِوَا اللَّهِ بَاطِلٌ اِنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَظِيْمٌ هَاطِلٌ

اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے بیشک اللہ کا فضل باریش ہر سامنے والا ابر ہے۔

اے خدائے پاک بے انباز و یار دستگیر و جرم مارا در گزار

اے خدائے پاک جو لاشرک اور دگار سے مستغنی ہے دستگیری فرما اور ہماری خطا سے درگزر فرما

یا دودہ مارا سخن ہائے رقیق کہ ترارحم آورد آل اے رفیق

ہمیں رقت آمیز باتیں سکھا دے اے ہمدرد بان جو تیرے رحم کا سبب نہیں

ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو ایمنی از تو مہابت ہم ز تو

معا کی توفیق بھی تیری جانب ہے اور قبولیت کی توفیق بھی اطمینان تیری طرف ہے اور ڈر بھی تجھ سے ہے

گر خطا گفتم اصلاحش تو کن مصلحتی تو اے سلطان سخن

اگر ہم غلط بات کہیں تو اسکی اصلاح کر دے اے کہ تو کلام کا بادشاہ ہے اور تومی اصلاح کرنیوالا ہے

کیھیاداری کہ تبدیلیش کنی گرچہ جوے نون بود نیلش کنی

تیرے پاس کیا ہے تو اسکو تبدیل کر سکتا ہے اگر خون کی نہر ہو تو تو اے دریائے نیل بنا دیتا ہے

ایں چنین مینا گر مہا کار تست ایں چنین اکیسر ماز اسرار تست

ایسی مینا کاری تیرا کام ہے ایسی کیمیا میں تیرے مجید ہیں

منزل سوم روز دوشنبہ

تیسری منزل بروز پیر

یارب این بخشش حد کار است لطف تو لطف حق را خود سزا است

یہ دعا بھی تیری تعلیم اور عطا ہے معنی بہر بانی کے لئے تیسری بہر بانی مناسب ہے

دستگیر از دست ما مارا بخسر پرده را بردار و پرده مارا بدر

اے خدا یہ عطا ہمارے بس کی نہیں ہے معنی بہر بانی کے لئے تیری بہر بانی مناسب ہے

باز خرمارا از میں نفس پلید کاروش تا استخوان مارا سید

اس ناپاک نفس سے ہمیں خرید لے اس کی چھری ہماری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے

این چنین قفل گراں راے دود که تواند جز که فضل تو کشتود

اے محبوب اس قدر بھاری قفل کو تیری بہر بانی کے علاوہ اور کون کھول سکتا ہے

ماز خود سوسے تو گردانیم سہر چوں توئی از ما بجا نزدیک تر

ہم اپنی جانب سے تیری جانب رخ کرتے ہیں چونکہ تو ہم سے ہمارے اعتبار سے بھی زیادہ نزدیک ہے

با چنین نزدیکی دوریم دور در چنین تاریکی بفرست نور

اس قدر نزدیکی کے ہوتے ہوئے بھی ہم بہت دور ایسی تاریکی میں نور بھیج دے

این دعا ہم بخشش و تعلیم است ورنہ در گلخن گلستاں از چہ رست

یہ دعا بھی تیری تعلیم اور عطا ہے ورنہ بھٹی میں چمن سے کیسے اُلت

در میاں خون و رده ہنم و عقل جزا اگر ام تو نتوان کرد نقل

خون اور انتڑیوں میں سمجھ اور عقل تیرے کرم کے سوا کوئی منتقل نہیں کر سکتا ہے

عہد بالمشکت صد بار و ہزار عہد تو چوں کوہ ثابت برقرار

ہمارا عہد سینکڑوں اور ہزاروں بار ٹوٹا ہے تیرا عہد پہاڑ کی طرح ثابت برقرار ہے

عہد ماکاہ و پیرباد سے زبوں عہد تو کوہ زرد کہ ہم فنزوں

ہمارا عہد تنکا ہے اور ہر ہوائے منسوب تیرا عہد پہاڑ ہے اور سینکڑوں پہاڑوں سے بڑھا ہوا ہے

حق آل قدرت کہ بر تلوین ما رحمتے کن اے تو میری مہنا

اس قدر کا واسطہ جو تجھے ہماری نیرنگیوں پر ہے اے حالات کے فرمانروا رحم فرما دے

خولیش را دیدیم و رسوائی خولیش امتحاں ما کن اے شاہ بیش

میں نے اپنے آپ کو اور اپنی رسوائی کو دیکھ لیا اے شاہ ہمارا زیادہ امتحان نہ لے

تا فضیحت ہٹے دیگر را نہاں کردہ باشی اے کریم مستعاں

تا کہ تو دوسری رسوائیوں کو تو پوشیدہ کر دے اے مددگار کریم

بے حدی تو در جلال و در کمال در کثری ما بے حدیم و در ضلال

تو جمال اور کمال میں لا محدود ہے ہم کجی اور گمراہی میں لا انتہا میں

بے حدی خولیش بگمار اے کریم بر کثری بے حد مشتے لیٹم

اے کریم اپنی بے پایانی سلطنت فرما دے ایک مٹھی (خاک) رکھنے لا محدود کجی پر

میں کہ از مقطع مایک تار ماند مصر بودیم ویکے دیوار ماند

دیکھ ہمارے لباس کا ایک تار رہ گیا ہے ہم شہر تھے اور ایک دیوار رہ گئی ہے

البقیہ البقیہ اے خدیو تا نگر و دشا دگئی جان دیو

اے شاہ باقی کی حفاظت کو تاکہ شیطان کی جان بالکلیہ خوش نہ ہو

بہر مانے پہر آن لطفِ نخست کہ تو گردی گریان را باز صحبت

ہماری وجہ سے نہیں، اس پہلی بہر بانی کی وجہ سے کہ تو نے گمراہوں کو تلاش کیا ہے

پہلوں نمودی قدرت بنمائے رحم لے نہادہ رحم ہا در لحم و شحم

جب تو نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے رحم فرمائے لے وہ ذات جس نے چربی اور گوشت بھی رحم مادہ کھو دیا

ایں دعا گر خشم افزاید ترا تو دعا تعلیم فرما بہترا

اگر یہ دعا تیرا غصہ بڑھائے لے بڑے تو اور دعا سکھادے

اِنَّا فِيْ دَارِ دُنْيَا نَا حَسَنٌ اِنَّا فِيْ دَارِ اٰخِرَاتِنَا حَسَنٌ

میں ہمارے دنیا کے گھر میں بھلائی عطا فرما کر ہیں ہمارے آخرت کے گھر میں بھلائی عطا فرما

راہ را بر ما چوستان کن لطیف مقصد ما باش ہم تو اے شریف

مرا بہ مستقیم کو ہم پر باغ کی طرح پر لطف بنا لے اے شرافتوں والے ہمارا مقصد تو ہو

تا چہ دارد این محمود اندر کدو لے خدا فرماید مارا زریں عددو

نہ معلوم یہ حاسد کیا چال چل رہا ہے لے خدا اس دشمن سے ہماری فریاد کس نے

ایں حدیثش، محمود دست لے الہ رحم کن ورنہ کلیم شد سیاہ

لے خدایہ اس کی گفتگو دھو میں کی طرح ہے رحم فرما ورنہ میری کلمی کالی ہو جائے گی

من لجت بر نیا بم با بلیس کوست فتنہ ہر شریف و ہر خیس

میں دیل سے شیطان سے نہ جیت سکوں گا کیونکہ وہ ہر شریف اور خیس کیلے باعث فتنہ ہے

يَا غِيَاثِيْ عِنْدَ كُلِّ كَرْبَةٍ يَا عَاوِذِيْ عِنْدَ كُلِّ شَهْوَةٍ

لے ہر مصیبت میں میرے فریاد رس، لے ہر مصیبت میں میری پناہ

يَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ يَا مُلَاذِمِي عِنْدَ كُلِّ مِحْنَةٍ

اے ہر پکار پر میرے جواب دینے والے اے ہر مشقت میں میرے بلجا

اے خداوند اے قدیم احسان تو آنکہ دائم و آنکہ نہیم اے تو

اے خداوند اے قدیم محسن میں آپکے احسان کو خواہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا مگر ہر خرید احسان آپکی شان عطا ہے

ایں دعا بشنوز بندہ کاے خدا شروتے بے رنج روزی کن مرا

یہ دعا بندے کی سن کہ اے خدا بغیر محنت کے مجھے مال داری عطا فرما دے

چوں مرا تو آنسردی کاہلے زخم خوارے سست جنبے منبلے

جبکہ تونے مجھے کاہل پیدا فرمایا ہے اور مار کھالے والا کمزور پہلو والا تاکارہ

کاہلم چوں آنسردی اے ملی روزیم وہ ہم ز راہ کاہلی

اے بے نیاز جبکہ تونے مجھے کاہل پیدا فرمایا ہے مجھے روزی بھی کاہلی کے راستہ سے عطا فرما

کاہلم من سایہ تحسیم در وجود نضتم اندر سایہ احساں ہود

میں کاہل زندگی بھر سویا ہوں ہر بانوں اور سخاوت کے سایہ میں سویا ہوں

کاہلاں و سایہ خسیاں رامگر روزے نہبادہ نوع دگر

کاہلوں اور سایہ میں سوانے والوں کیلئے شاید تونے دوسری ہی طرح کی روزی مقدر کی ہے

ہر کہ اپاہست جوید روزیے ہر کہ اپانیت کن دل سوزیے

جس کے پاؤں میں وہ روزی تلاش کرتا ہے جس کے پاؤں نہیں اس پر رحم فرما

رزق را میراں بسوے ایں حزیں ابر را باراں بسوے ہر زمین

اس تعین کا طرف روز کا بھیج ہر زمین کے جانب ابر کو پہنچا

چوں زمیں را پانہ باشد خود تو ابرار اندلسوے او دو تو

چونکہ زمین کے پاؤں نہیں ہیں تیری سخاوت ابر کو تہہ برتہ اس کی طرف لے جاتی ہے

طفل را چوں پانہ باشد مادرش آید و ریزد و طیفہ بر سرش

بچہ کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے اس لئے اس کی ماں آتی ہے اور غذا اس کے سر پر نہاتی ہے

روزی خواہم بنا گے بے تعب کہ ندارم من ز کوشش جز طلب

غیر محنت کے اچانک روزی چاہتا ہوں اس لئے سوائے طلب کے میرے پاس کوشش نہیں ہے

منزل چہارم روز سہ شنبہ

چوتھے منزل بروز منگل

از ہمہ نوید گشتیم اے خدا اول و آخر توئی و منتہا

اے خدا میں سب سے مایوس ہو گیا ہوں اول و آخر تو ہی ہے اور تو ہی منتہا ہے

کردگار منگر اندر فصل ما دست ماں گیرے ہر دوسرا

اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ لے قادر مطلق ہماری دستگیری فرما

خوش سلامت ماں بہ ساحل باز بر اے رسیدہ دست تو در بحر دبر

ہیں بہترین ساتھی کے ساتھ ساحل پر لوٹا دے اے وہ ذات کہ تیری قدرت بحر دبر ہے

اے کریم و اے رحیم سرمدی در گزار از بد سگالان ایسی بدی

اے کریم اور اے ابدی رحم والے بد عقیدہ لوگوں کی اس بدی سے در گزار

اے بدادہ رائیگاں صدمہ و گوش نے ز رشوت بخش کردہ عقل و ہوش

اے وہ کہ جس نے سیکڑوں آنکھیں اور کان مفت، عقل و ہوش بھی رشوت سے نہیں بخشے

پیش ز استحقاق بخشیدہ عطا دیدہ از ما جملہ کفران خطا

مستحق ہونے سے پہلے ہی بخشش کی ہم سب کی نافرمانی اور خطا کو دیکھتے ہوئے

اے عظیم از ما گناہان عظیم تو توانی عفو کردن در جرمیم

اے بزرگ ہمارے بڑے گناہوں کو جرم ہیں تو ہی عاف کر سکتا ہے

ماز حرم و از خود را سوختیم دیں دعا را ہم ز تو آموختیم

ہم نے حرم و ہوس میں اپنے آپ کو جلا ڈالا ہے یہ دعا بھی ہم نے تجھ سے سیکھی ہے

حرمت آل کہ دعا آموختی در عین ظلمت چراغ افروختی

اس کے طفیل تو نے دعا سکھائی ہے ایسی تاریکی میں چراغ روشن کر دیا ہے

دستگیر در راہ نما توفیق دہ جرم بخشش و عفو کن بکشاگرہ

دستگیری فرما اور رہنمائی عطا فرما خطا بخش دے اوصاف کرے اور گرہ کھول دے

اے خدا این بندہ را رسوا مکن گردم ستر من پیدا مکن

اے خدا اس غلام کو رسوا نہ فرما اگر میں برا بھی ہوں میرا راز فاش نہ کر

اے خدا اے رازداں و خوش سخن عیب کار بد ز ما پنہاں مکن

اے خدا اے رازداں او خوش کلام میرا مٹاؤ کی برائی کو ہم سے پوشیدہ نہ بھننے و نہ ابتلاء کا خطر ہے

عیب کاے نیک را منما مہا تا نگردیم از روش سرد رہیا

کسی نیک کام کو برائی کی صورت میں مجھ استہانت دکھا بلکہ حق کو حق اور باطل کو باطل دکھانا کہ
گراہتے گرد و غبار میں ہم اپنا سر نہ داخل کریں۔

دست من اینجا رسید این را بنسبت دستم اندر شستن جہاں دست مست

میرا ہاتھ یہاں پہنچا اس کو دھویا روہ کے دھونے میں میرا ہاتھ کتنا ہے

اے ز تو کس گشتہ جانِ ناکساں دستِ فضل تست در جاہنارساں

اے خدا تجھ سے نالائقوں کی جان لاتی بن گئی ہے تیرے کرم کا ہاتھ دھون تک پہنچنے والا ہے

حد من این بود کردم من لیم زان سو سے حد را منفی کن اے کریم

مجھ کہنے کی یہی حد تھی جو کرنی ، حد کی اس جانب کو اے کریم پار کر دے

از حدت شستم خدایا پوست را از حوادث تو بشو این دوست را

اے اللہ میں نے ناپاکی سے کھال کو دھویا تو اس دوست کو حوادثِ زمانہ سے دھو دے

سبطی و قبلی ہم بندہ تواند عاجز امر تواند مستمند

سبطی اور قبلی سب تیرے بندے ہی تیرے حکم کے سامنے عاجز اور محتاج ہیں

جز تو پیش کہ بر آرد بندہ دست ہم دعا و ہم اجابت از تو است

تیرے سوا بندہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا بھی تیری جانب ہے قبول کرنا بھی تیری جانب ہے

ہم ز اول تو وہی میل دعا تو وہی آخر دعا ہا را جزا

ابتداء تو وہی دعا کی طرف متوجہ کرتا ہے بالآخر تو وہی دعاؤں کا بدلہ عطا کرتا ہے

اول و آخر توئی ما در میاں پیچ ہیچے کہ نیاید در میاں

اول و آخر تو ہی ہے ہم در میان میں ایسے ناپیچہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا

اے خدا بے نظیر ایشار کن گوش را چون حلقہ دادی این سخن

اے بے نظیر خدا عنایت کرنے جبکہ تو نے اس کام کا کان میں حلقہ پہنا دیا ہے

گوش ما گیر و در آن مجلس کشاں کز حقیقت وے کشد اے سرخوشاں

ہمارا کان پکڑ اور اس مجلس میں کھینچ کیونکہ یہ مست تیری شراب پی رہی ہے

چوں ببا بونے رسانیدی از یسے سر مبند آن مشک را اے رب دیں

جبکہ تو نے ہم تک اس کی خوشبو پہنچا دی ہے اے دین کے رب اس مشک کو بند نہ کر

از تو نوشد از ذکور و از اناث بے دینے در عطا یا مستغاث

مذکر اور مؤنث تجھ سے ہی پئی رہے ہیں اے فریاد کرس تو عطیات میں بے ٹوک رہ

اے دعا نا کردہ از تو مستجاب ۱ داوہ دل را ہر دے صد فتح باب

اے وہ کہ زمانگی ہوئی دعا بھی تجھ سے قبول ہے تو نے ہر لمحہ دل کو نیک کر دیا اور ان کے کھلنے کی توفیق دی

اے قدسیے راز دہاں ذوالمنن در رہہ قہا جنزیم و ممتحن

اے احسانوں والے راز کو جاننے والے ہی تیری راہ میں ہم عاجز اور مشقت میں ہی

ہر دل سرگشتہ را تدبیر بخش دیں کما نہائے دو تور اتیر بخش

اس حیران دل کو تدبیر عنایت کر دے ان خمیدہ کانوں کو تیسہ عنایت کر دے

اے بزدل کردہ خاکے را بنذر خاک دیگر را نمودہ بو البشر

اے وہ جس نے مٹی کو سونا بنا دیا دوسری مٹی کو ابو البشر بنا دیا

کار تو تبدیل اعیان و عطا کار ماہوسست و نسیان و خطا

تیرا کام موجودات کو تبدیل کرنا اور عطا ہے ہمارا کام سہو اور بھول اور خطا ہے

سہو و نسیان را تبدیل کن بہ علم من ہمہ جہلم مرادہ صبر و حلم

میرے سہو اور بھول کو علم سے تبدیل کرے میں مجسم جہل ہوں مجھے صبر و حلم دے

اے کہ خاک شورہ را تو تاں کنی دے کہ تاں مردہ را تو جاں کنی

اے وہ کہ شورہ والی زمین کو روٹی بنا دیتا ہے اور مردہ روٹی کو جان بنا دیتا ہے

ایک جاں خیرہ را رہبر کنی دے کہ بے را کہ پیغمبر کنی

لے وہ پر آگندہ کو رہبر بنا دیتا ہے اور رستہ نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دیتا ہے

ایک خاک تیرہ را تو جاں دہی عقل و حس روزی ایماں دہی

لے وہ کہ تاریک مٹی کو جان عطا کر دیتا ہے عقل اور حس اور روزی و ایساں دیتا ہے

شکر از نے میوہ از چوب آوری از منی مردہ بت خوب آوری

نے سے شکر اور فکر ہی سے پھل پیدا کر دیتا ہے اور مردہ مٹی سے حسین معشوق پیدا کر دیتا ہے

مے کنی جزو زمیں را آسماں میفترائی در زمیں از اختراں

تو زمین کے جزو کو آسماں بنا دیتا ہے ستاروں سے زمین میں افزائش کر دیتا ہے

اے دہندہ قوت و تمکین ثبات خلق را زیں بے ثباتی وہ نجات

لے روزی اور استقلال او پائیداری عنایت کر نیوے مخلوق کو اس ناپائیداری سے نجات دے

اندر ان کاریکہ ثابت بودنی ہست قائمی وہ نفس را منشی ہست

اس کام میں جو پائیداری کے قابل ہے نفس کو ٹوکا دعایت کرے وہ پٹ جانے والا ہے

اندر ان کاریکہ دارد آں ثبات قائمی وہ نفس را بخشش خیات

وہ کام جو پائیدار ہو، نفس کو ٹوکا دے اس کو زندگی بخش

صبر شاں بخش و کفہ میزان گراں وار ہاں ماں از دم صورت گراں

ان کو صبر عطا کر اور ترازو کا بھاری پلڑا، بہر و پیوں سے ان کو نجات دے

وز حصوے باز ماں خمر لے کریم تا نباشیم از حصوے در جیم

لے کریم ان کو حصہ سے بچائے تاکہ وہ حصہ کی وجہ سے مردود شیطان نہ بنیے

منزلے پنجم روز چہار شنبہ

پانچویں منزلے بروز بدھ

گویم اے رب بار بار گشتہ ام تو بہا و عذر را بشکستہ ام

میں نے کہا کہ اے اللہ میں نے بہت انحراف کیا ہے قبر اور جہد توڑ سے ہیں

کردہ ام آہنہا کہ از من سے سزید تا چنیں سیل سیاہی در رسید

میں نے وہ کیا جو میرے لائق تھا یہاں تک کہ ایسا سیاہی کا بہاؤ آگیا

در جگر افتادہ ہستم صد شر در مناجاتم میں خون جگر

میرے جگر میں سینکڑوں چٹکاریاں لگی ہیں میری دعائیں میری جگر کی بوسونگھ

ایں چنیں اندوہ کافر را مباد دامن رحمت گرفتہ ام داد داد

اسی طرح کاظم کافر کو بھی نہ ہو میں نے رحمت کا دامن تھا ہے فریاد ہے فریاد ہے

کاش کے مادر نژاد سے مر مرا یا میرا شیرے نخورے در چرا

کاش مجھے ماں نہ جنتی یا جنگل میں مجھے شیر کھا جاتا

اے خدا آں کن کہ از تو سے سزد کہ زہر سوراخ مارم سے گزد

اے خدا وہ کرجو تیرے لائق ہے کہ ہر سوراخ سے مجھے سانپ ڈس رہا ہے

جان سنگیں دارم و دل آہنس در نہ خون گشتے در دچنیں

میں پتھر کی جان اڈو ہے کا دل رکھتا ہوں ورنہ اس رنج اور گریہ میں خون بن جاتے

وقت تنگ آمد مرادیک نفس باد شاہی من مرا فریاد رس

میرا وقت تنگ ہو گیا حقوڑی دیر کے لئے، شاہی برکت میری فریاد رسی کہ

گر مرا این باستانی کنی توبہ کردم من زہرنا کردنی

اگر اب کی دفعہ تو میری پردہ پوشی کرے میں نے ہر نہ کرنے کے کام سے توبہ کی

توبہ ام بسپزیر ای بار دگر باہ بندم بہر توبہ صد کر

اس بار پھر میری توبہ قبول کرے تاکہ میں توبہ کے لئے سو کر کس لوں

يَا اِلٰهِي سَكِرَتْ اَبْصَارُنَا فَاَعْفُ عَنَّا اَنْقَلَتْ اَوْزَارُنَا

اے مہاے خدا ہماری بینائیاں مدہوش کر دی گئی ہیں یہی معاف کرے ہمیں گناہوں کے بوجھ بھاری ہو گئے ہیں

يَا خَفِيًّا قَدَمَلَاتِ الْخَافِعِينَ قَد عَلَوَتْ فَوْقَ نُورِ الْمَشْرِقِينَ

اے پوشیدہ تو نے مشرق مغرب کو بڑھ کر دیا ہے تو دونوں مشرقیوں کے نور سے بڑھ گیا ہے

انت ستر کاشف اسرارنا انت فجر مفسر المنہارنا

تو راز ہے ہمارے بھیدوں کو کھولنے والا ہے تو صبح کا سفیدہ ہے ہماری نہروں کو جاری کرنے والا ہے

يَا خَفِيَّ الذَّاتِ فَحَسُّوسِ الْعَطَا اَنْتَ كَالْمَاءِ وَنَحْنُ كَالرِّجَا

تو ہوا کی طرح اور ہم غبار کی طرح ہیں ہوا پوشیدہ رہتی ہے اور اس کا غبار ظاہر ہے

اَنْتَ كَالرِّيمِ وَنَحْنُ كَالغُبَارِ يَخْتَفِي الرِّيمُ وَغَيْرُهُ جِهَارُ

تو ہوا کی طرح اور ہم غبار کی طرح ہیں ہوا پوشیدہ رہتی ہے اور اس کا غبار ظاہر ہے

تو بہاری ماچو بانغ سبز و خوش او نہاں و آشکارا بخشش

تو موسم بہار ہے ہم سبز اور خوش بانغ کی طرح ہیں وہ پوشیدہ اور اسکی عطا کھلی ہوئی ہے

تو جو جانی مائمال دست و پا قبض بسط است از جاں شد روا

تو جان کی طرح ہے ہم ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہیں ہاتھ کا بند ہونا اور کھلنا جان سے ممکن ہوا

تو مثال شادی و ماخندہ ایم کہ نتیجہ شادی و فرخندہ ایم

آپ مثل خوشی کے ہیں اور ہم خوشی کے سبب خندہ ہیں یعنی جس طرح خوشی دل میں مخفی ہے
مگر ہنسی اس کا مخفی سبب ہے۔ تو خوشی کی طرح ہے اور ہم ہنسی ہیں کیونکہ ہم مبارک
خوشی کا نتیجہ ہیں۔

هٰاَعِدْتِيْ غَاَلِقِيْ مِنْ شَرِّمْ لَا تَكْرِمْسِيْ اَنْدِلْ مِنْ كَبْرِمْ

اے میرے پیدا کرنے والے مجھے اپنے شر سے پناہ دے مجھے محروم نہ کر مجھے اس کی بھلائی عطا کر

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ مَا اَدْرِيْ لَا اَعْقِبُ حَسْرَةً لِّيْ اِنْ تَضَيَّ

اے میرے رب میرے دل میں ڈال جو میں دیکھتا ہوں اس کا شکر ادا کروں
اگر وہ چلا جائے اس کے بعد تو حسرت پیدا نہ فرما۔

راہ را آلودگان را العجل در فرات عفو و عین مفضل

آلودہ ہو جانے والوں کو بہت جلد راستہ عطا فرما معافی کی نہر اور نہانے کے چشمہ کا

تاکہ غسل آلودگان جرم دراز در صف پاکان روند اندر نماز

تاکہ اس بلبی خطائے غسل کر لیں نماز میں پاکوں کا زمین میں شامل ہو جائیں

اندریں زیں صیفہاز اندازہ بروں عرق گان نور سخن الصادقون

ان صفوں میں اندازے سے زیادہ ہم صف باندھنے والے ہیں نور میں عرق ہیں

الغیاث اے تو غیاث المستغیث زیں دو شاخہ اختیارات نبیث

المودائے فریاد رسوں کے مدد، و در ہے کہ ان نبیث اختیارات سے

من ز دستاں وز مکر دل عیناں مات گشتم کہ باندم از نشاں

میں دل کے مکر اور فریب سے ایسا عاجز آ گیا ہوں کہ فریاد سے بھی عاجز ہوں

من کہ باشم چرخ با صد کار و بار زین کیس فریاد کرد از اختیار

میں کون ہوں آسمان نے بھی سینکڑوں کار و بار کے ہوتے ہوئے اختیار کی وجہ سے اس گھٹائی فریاد کی ہے

کائے خداوند کریم و بردبار وہ امام زین و شاخہ اختیار

کوائے حلیم کریم خدا اس اختیار کے دوران سے مجھے امن عطا فرما

جذب یک راہ صراط المستقیم بہ زود زاپہ تردد لے کریم

سیدھے راستہ کی ایک راہ کی کشش لے کریم دوراہ کے تردد سے بہتر ہے

زین دورہ گرچہ ہم مقصد توئی یک خود جاں کندن آمد دونی

اس دوراہ سے اگرچہ تو ہی مقصد ہے لیکن یہ دونی خود جان کنی ہے

زین دورہ گرچہ بجز تو عزم نیست یک ہرگز رزم ہچوں بزم ہست

اس دوراہ سے اگرچہ تیرے سوا کا ارادہ نہیں لیکن رزم بزم کی طرح ہرگز نہیں

زین تردد عاقبت ما خیر باد لے خدا بر جان مارا کن تو شاد

انجام کار اس تردد سے ہمارے لئے خیریت ہو، لے خدا تو ہماری جان کو خوش رکھ

لے کریم ذوالجلال ہریاں دائم المعروف دارائے جہاں

لے ہریاں عظمت والے کریم سدا احسان والے جہاں بنانے والے

یا کریم العفو حیّ لم یزل یا کثیر الخیر شاہ بے بدل

لے ہمیشہ رہنے والے زندہ بھلی معافی والے لے گھنی خیر والے بے بدل شہنشاہ

اولم ایں جزر و مد از تو رسید ورنہ ساکن بود ایں بحر مجید

یہ جزر و مد ابتداء تو مجھے تجھی سے ملا ورنہ لے بزرگ یہ دریا پہلے ساکن تھا۔

ہم از انجا کایں تردد دادیم بے تردکن مرا از کرم

جس جگہ سے تو نے مجھے یہ تردد دینا ہے مجھ کرم سے بے تردد بھی کر دے

ابتلایم لے کنی آہ الغیاش لے ذکور از ابتلایت چوں اناش

آہ تو میری آزمائش کرتا ہے فریاد ہے لے وہ کہ تیری آزمائش کے سامنے مذکور نوشت کی طرح

تا بکے این ابتلا یا رب مکن مذہبے ام بخش و وہ مذہب مکن

یہ آزمائش کب تک لے خدا نہ کر مجھے ایک راستہ عنایت کر دے دس راستے نہیں

اشترے ام لاغر و ہم پست ریش ز اختیار ہچو پالان شکل خویش

میں کمزور اونٹ ہوں اور زخمی مگر اپنے اختیار سے اپنی شکل پالان جیسی بنانی ہے

ایں کترادہ کہ شود ایں سوگراں آن کترادہ کہ شود آں سوکشاں

یہ کنارہ کبھی اس جانب بھاری ہو جاتا ہے وہ کنارہ کبھی اس جانب ہو جاتا ہے

بفگن از من حمل ناہموار را تا بہ بلینم روضہ الوار را

مجھ سے ناہموار بوجھ کو گرا دے تاکہ میں نیکیوں کے باغینچہ کو دیکھ دوں

ہچو آں اصحاب کف از راہ خود میچرم ز ایقاظ نے بل ہم ز خود

اصحاب کف کی طرح سہادت کے باغینچہ سے میں غذا حاصل کروں جاگتے ہوئے نہیں بکھرتے

خفتہ باشم بر ہمیں و بالیسار بزکردم جز چو گے بے اختیار

میں دائیں پر سویا ہوا ہوں یا بائیں پر میں صرف بے اختیار گیند کی طرح نہیں ہوں

ہم بہ تغلیب تو تا ذات الیمین یا سوئے ذات الشمال لے رب دین

ترے ہمارے پلٹنے سے دائیں جانب یا بائیں جانب لے دین کے رب

منزل ششم روز پنجشنبہ

پہلے منزل کے بروز جمعرات

اے دہندہ عقلہا فریاد رس تا سخا ہی تو سخا ہد پہنچ کس

اے عقل عطا فرمانے والے فریاد ہی کیجئے جب تک آپ نہ چاہیں کوئی شخص نہیں چاہ سکتا

ہم طلب از تست وہم آن نیکوئی ما کشیم اول توئی آخر توئی

طلب بھی آپ ہی کی طرف سے ہے اور وہ نیکی بھی ہم کو نہ چیز میں اول بھی آپ ہی ہیں اور آخر بھی

ہم تو بگو ہم تو بشو ہم تو باش ما ہمہ لاشیم با چندیں تراکش

آپ ہی سے کہیں آپ ہی سے سنیے آپ ہی رہیں ہم تو سب لاشے ہیں باوجود اس قدر تراش تراش کے

زیں حوالہ رغبت افزا در سجود کاہلی و جبر مفرست و خمود

اس حوالہ سے آپ رغبت سجدہ میں بڑھائیے جبر کی کاہلی اور افسردگی مت بھیجئے

بے زجبدے آسردیدی مررا بے فن من روزیم وہ زنی کسرا

تو نے مجھ بغیر مشقت کے پیدا کیا، اس دنیا سے بغیر ہنر کے مجھے روزی عطا فرما

پنج گوہر دادیم در درج سر پنج غس دیگرے ہم مستر

تو نے مجھے سر کی ڈبیر میں پانچ موتی عطا کئے دوسرے پانچ جو اس باطن بھی

لا یعدا میں داد ولا یحصى ز تو لن کلیم از بیانش شرم رو

تیرا عطا لا تعداد اور بے شمار ہے میں اس کے بیان سے عاجز اور شرمندہ ہوں

چونکہ در خلاقیم تنہا توئی کار ز اقیم ہم کن مستوی

جبکہ میرے پیدا کرنے میں تو تنہا ہے میرا رزق رسانی اس کے ساتھ درست کر دے

کردگار تو بہ کرم زیرِ شتاب بچوں تو درستی تو کن فتح باب

اے اللہ میں نے جلدی سے توبہ کی جب آپ نے در بند کیا تو آپ ہی دروازہ کھول دیجئے

برہمیر حرفہ شدم باردگر در دعا کردن بدم من بے ہنر

میں بار دگر حرفہ کے سر ہو گیا میں دعا کرنے میں بے ہنر ہی تھا

کو ہنر کو من بجا دل مستوی این ہمز از عکس تست این ہم توئی

ہنر کہاں ہے میں کہاں دل بے قرار کہاں ہے بے سب آپ ہی کا عکس ہے اور خود آپ کہاں ہیں

در عدم ماستحقاں کے بدیم کہ بریں جاں و بریں دانش ردیم

عدم میں ہم مستحق کب تھے کہ ہم اس جان اور عقل پر پہنچ گئے

در عدم مارا چہ استحقاق بود تا چہنیں عقلے و جانے رونمود

عالم ارواح میں ہمارا کوئی حق نہ تھا یعنی کوئی عمل نیک نہ تھا مگر بدون استحقاق

آپ نے عقل اور روح کی نعمت سے احسان فرمایا۔

اے بگردہ یار ہر غیبار را اے بدادہ خلعت گل خارا

اے وہ ذات جس نے غیروں کو دوست بنایا ہے جس نے کانٹے کو پھول کا لباس لگایا ہے

خاک مارا ثانیہ پاکیز کن بیچنے را بار دیگر چیز کن

ہماری مٹی کو دوبارہ سرسبز کر دے ناچیز کو دوبارہ چیز بنا دے

این دعا تو امر کردی ز ابتدا ورنہ خاک را چہ زہرہ این ندا

شروع سے اس دعا کا تو نے حکم دیا ہے ورنہ ایک مٹی کو یہ حوصلہ کہاں ہوتا

چوں دعا ما امر کردی اے عجب اب اس دعاے نوشی راکن مستجاب

جب تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اے عجیب اپنی اس دعا کو مقبول بنا

چوں الف چیزے ندرم اے کریم جزوے و آن تنگ ترے چشم میم

اے کریم میں الف کی طرح کوئی چیز نہیں رکھتا ہوں سونے ایک دل کے جو میم کی آنکھوں سے زیادہ تنگ ہے

ایں الف و یں میم ام بود ما ست میم ام تنگ ست الف زان ناگد است

یہ الف اور میم گویا ہماری ماں ہے دل میم کی طرح تنگ ہے اور الف اس کا ضرور تمند ہے

ایں الف چیزے ندر فاعلی ست میم دل تنگ آل زمان عاقلی ست

یہ الف کوئی چیز نہیں رکھتا غفلت کی حالت ہے میم دل تنگی کے باوجود عقل مند ہے

در زمان بیہوشی خود بیدار منے در زمان ہوش پیچا پیچ من

میں بیہوشی کے وقت خود بیدار ہوتا ہوں ہوش کے زمانہ میں پیچا پیچ ہوتا ہوں

پیچ دیگر بر جنیں پیچے من نام دولت بر جنیں پیچے من

ایسے ناکارہ پر مزید ناکارہ پن نہ ڈال ایسے پیچے پن کا نام دولت نہ رکھ

خود نہ دارم پیچ ہر سازد مرا چوں زد ہم دارم ست ایں صد عنا

میں خود کچھ نہیں رکھتا ہوں وہ مجھے بہتر بناتا ہے یہ سیکڑوں علم جو میں رکھتا ہوں ہم کو وہ ہیں

در ندرم ہم تو دار ایم کونے رنج دیدم رحمت افزایم کن

اگر میں کچھ نہیں رکھتا تو آپ میری رکھوانی میں نے رنج دیکھا ہے آپ میری راحت افزائی کیجئے

ہم در آب دید عریاں نیستم بر در تو چونکہ دیدہ نیستم

میں آب دیدہ میں بھی عریاں ہو کر کھڑا ہوں آپ کے در پر چونکہ میرے پاس دیدہ نہیں ہے

ز آب دیدہ بندہ بے دید را سبزہ بخش و نباتے زیں چرا

آب دیدہ سے بندہ بے بصیرت کو اس چراگاہ سے سبزہ اور نباتات دیکھئے

در نماذ آب آہم دہ زعین ہمو عینین نبی صطا لیتن

اگر پانی زہے تو آپ پانی بھی آنکھوں سے مجھ کو دیکھے مثل سبزہ کی آنکھوں کے جو کہ جاری رہنے والی ہیں

منگر اندر زشتی و مکر و ہمیم کہ زہر زہری چو مار کو ہمیم

میرے مجھ سے پن اور مکروہ ہونے کو نہ دیکھو کیونکہ میں پہاڑی سانپ کی طرح زہر سے پُر ہوں

ایک من زشت و خصالم نیز زشت چوں شوم گل چوں مرا و خار گشت

میں محبوب میں بُرا اور میری سب عادتیں بری ہیں پھول کیسے بن جاؤں جبکہ اس نے مجھے خار بنا دیا ہے

نو بہار احسن گل وہ خار را زینت طاؤس دہ این مار را

اے نو بہار تو کانٹے کو پھول کا احسن ہے تو اس سانپ کو مور کی زینت عطا کر دے

در کمال زشت من مننتے لطف تو در فضل و در من منتے

میں بُرائی کے کمال میں اتنا تک پہنچنے والا ہوں تیری مہربانی اور تیرا فضل اتنا پر پہنچے ہیں

حاجت این منتے راں منتے تو بر آراے غیرت کسروہی

اس اتنا پر پہنچنے والے کی حاجت اس اتنا پر پہنچنے والی ہے پورا کر دے اے سروہی کیلئے بہتر

دستگیرم در چینیں بے چارگی شاد گردانم دریں غم خوارگی

ایسی بیچارگی میں میرا دستگیری کر اس غم خوارگی میں مجھے خوش کر دے

روح را تا باں کن از الفوار ماہ زانکہ ز آسیدب ذنب شد دل سیاہ

روح کو اس چاند کے نور سے روشن کر دیجئے کیونکہ روح گناہ کے اثر سے کالا ہو گئی ہے

از خیال دوم وطن بازش رہاں از چہ و تور سن بارش رہاں

اس کو خیال اور وہم و گمان سے چھڑا دیجئے کنویں اور رستی کے ظلم سے اس کو چھڑا دیجئے

تاز و لداری خوب تو دلے پر بر آرد بزم ذآب و گلے

تا کہ ایک دل تیری اچھی ولداری سے پر نکال لے اور پانی اور مٹی سے اڑ جائے

زاں مثال برگ و بے پتر مردہ ام کز بہشت وصل گندم خوردہ ام

میں اسی وجہ سے خزاں کے پتے کا طرح مرجھایا ہوا ہوں کہ میں نے وصل کا بہشت سے گہنوں کھایا

یتوں بدیدم لطف و اکرام ترا واں سلام و سلم پیغام ترا

جب میں نے تیرا لطف اور اکرام دیکھا اور تیرے صلح کے سلام اور پیغام کو دیکھا

من و کسند چشم بدکردم پدید در کسندم نیز چشم بد رسید

میں نے نظر بند کی وجہ سے کالا دانہ نکالا میرے کالے دانے کو بھی نظر بد لگ گئی

دافع ہر چشم بد از پیش و پس چشم ہائے پر خمار تست و بس

انگے اور چمپے سے ہر نظر بد کے دفع کے لئے صرف تیری نشیلے آنکھیں ہیں

چشم بد را چشم نیکوت منتہا مات و متاصل کند نعم الدوا

اے شہادت تیری حسین آنکھ نظر بد کو مغلوب اور ملیا میٹ کر دیتی ہے وہ بہتر دوا ہے

بل ز چشمت کیما ہائے رسید چشم بد را چشم نیکوے کند

بلکہ تیری آنکھ سے کیما پہنچتی ہے نظر بد کو نیک نظر پہنچا دیتی ہے

منزل ہفتم روز جمعہ

ساتویں منزل بروز جمعہ

شد صغیر باز جاں در مریح دیں نعرہ ہائے لَأُحِبُّ الْأَقْلِينَ

دین کی چراگاہ میں جان کے باز کی پرواز گویا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا نعرہ بن گیا

باز دل را کہ پئے تو مے پرید از عطلے بحدث چشتے رسید

دل کا باز جو تیرے لئے اڑ رہا تھا تیرے بے حد عطا سے اس کو آنکھ حاصل ہو گئی

یافت بینی بوئے گوش از تو سماع ہر حے راقیے ارد شاع

ناک نے بو اور کان نے سنا تا تجھ سے حاصل کیا ہر حس کا حصہ مشترک ہے

ہر حے را چون وہی رہے غیب نبود آن حس فتور مرگ و شب

جس حس کو تو غیب کی جانب راستہ عطا کرے اس حس میں موت اور بڑھچلے کی کمزوری نہیں رہے گی

مالک الملکی بحس چیز سے وہی تاکہ بر حس ہا کند آن حس شہی

تو مالک الملک ہے تو جس کو کوئی چیز دیتا ہے تاکہ وہ حس احواس پر بادشاہی کرے

رَبِّ اَتَمِّمْ نُورَنَا بِالسَّاهِرَةِ وَانْجِنَا مِنْ مَفْضِحَاتِ الْقَاهِرَةِ

اے رب ہمارے نور کو محشر میں مکمل کرے اور ہمیں رسوا کرنے والے قہروں سے نجات دے

یارِ شب را روزِ مہجوری مدہ جانِ قرب دیدہ را دوری مدہ

رات کے دوست کو فراق کا دن نہ دے قرب دیکھی ہوئی جان کو دوری نہ دے

بعد تو در دست از فکر و نیکال خاصہ بعدے کال بود بعد از وصال

تیری دوری درد اور عذاب سے بھر اورد ہے خصوصاً وہ دوری جو وصال کے بعد ہو

آنکہ دیدتت ممکن نا دیدہ اش آب زن بر سبزہ بالیدہ اش

جس نے تجھے دیکھا ہو لے ان دیکھا نہ بنا اس کے آگے ہوئے سبزہ پر پانی چھڑک دے

میں مراں از روئے خود اور البعید آنکہ او یکبار روئے تو پدید

خبردار اپنے چہرے سے اس کو دور نہ کر جس نے ایک بار تیسرا چہرہ دیکھ لیا ہے

دید روئے جز تو شد فسل گلو کل شئی ما خلا اللہ باطل

تیرے بغیر چہرے کا دیدار گئے کا طوق ہے اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے

باطلند وئے نمایند رشد ز انکہ باطل باطلاں رائے کشد

وہ باطل ہیں اور مجھے خرابی دکھاتی ہیں کیونکہ باطل باطلوں کو کھینچتا ہے

زیر کششہائے خدائے رازداں تو بجز با لطف خود ماں وہ اماں

اے رازوں کو جاننے والے خدایا، ان کششوں سے تو میری بانی کی کشش بجز یہ ہیں پناہ سے

غالبی بر جا ذباں اے مشتری شاید اردو ماندگان را و آخری

اے خریدار تو کششوں پر غالب ہے مناسب ہوگا تو اگر بچھڑے ہوؤں کو خریدے

مناجات خاتم مثنوی

اے خدا سا زندہ عرش بریں شام رادادی تو زلف عنبریں

اے بلند عرش کو بنانے والے خدا تو نے شام کو عنبریں زلف عطا کی

روز را با شمع کافور اے کریم کردہ روشن تر از عقل سلیم

اے کریم دن کو کافور شمع کے ساتھ تو نے عقل سلیم سے زیادہ روشن کر دیا

خون بناف نافہ مشکے لے کنی سنبل و ریحاں چہر و پیشکے کنی

تو نانی کے خون کو مشک کا ناز بنا دیتا ہے وہ سنبل و ریحاں چرتا ہے مینگین بنا دیتا ہے

قادر قدرت تو داری بر کمال انت ربی انت حسی ذوالجلال

اے قادر تو کمال پر قدرت رکھتا ہے اے ذوالجلال تو ہی میرا رب ہے تو مجھے کافی ہے

اے خدا قربان احسانت شوم کان احسانی بقربانت روم

اے اللہ میں تیرے احسان پر قربان ہوں تو احسان کی کان ہے میں تجھ پر سربان ہوں

معدن احسانی و ابرہ کرم فیض تو چوں ابریزاں بر سرم

تو احسان کی کان اور کرم کا ابر ہے تیرا فیض میرے سر پر ابر کی طرح رہتا ہے

از عدم دادی بہشتی از لقاء زان سپس ایمان دنور واحددا

تو نے عدم سے وجود کو ترقی عنایت کی اس کے بعد ایمان اور ہدایت کا نور

اے خدا احسان تو اندر شمار سے نتانم باز بان صد ہزار

اے خدا تیرا احسان شمار میں لاکھ زبانوں سے کب کر سکتا ہوں

من بخواب و پاسبان من توئی من چو طفل و حوزہ جان من توئی

میں نیند میں ہوں اور میرا محافظ تو ہی ہے میں بچہ کی طرح ہوں تو میری جان کا محافظ کرتا ہے

من بعضیاں صرف وقت خود کمم بینی و از حلم مے پوشی برم

میں اپنا وقت نافرمانی میں صرف کرتا ہوں تو دیکھتا ہے اور بردباری سے میری پردہ پوشی کرتا ہے

روزیت را خوردہ عصیاں مے کمم نعمت از تو من بغیر مے تنم

تیری روزی کھا کر میں تیری نافرمانی کرتا ہوں نعمت تیری ہے میں غیر کے چکر کاشت ہوں

جلمہ می بینی نہ گیری انتقام از در حلم و کرم آئی مدام

تو سب کچھ دیکھتا ہے برد نہیں لیتا ہے اور ہمیشہ بردباری اور کرم کے دروازے آتا ہے

بر دل من سی صد و شصت او نظر لے کنی ہر رونے لے رب البشر

میرے دل پر تین سو ساٹھ شفقتیں ، لے رب البشر تو روز کرتا ہے

لیک من غافل ز لطف بیکران چشم دارم ہر زماں با ایں دآن

لیکن میں بے حد مہربانی سے غافل ہوں میں ہر وقت اس اور اسی سے امید باندھتا ہوں

دوست را بر من نظر شد دوختہ حیف من باد یگاناں دل دوختہ

دوست کی نگاہ مجھ پر جمی ہوئی ہے افسوس میں نے دوسروں سے دل وابستہ کیا ہے

من گناہ آرم تو ستاری کنی جرم من دارم تو معذاری کنی

میں گناہ کرتا ہوں تو پردہ پوشی کرتا ہے میں جرم کرتا ہوں تو معذور قرار دیتا ہے

جرم ہاے یمنی و نیشے ناوری اے بقربانت چہ نیس کو داوری

تو خطا میں دیکھتا ہے اور مجھ پر غصہ نہیں کرتا میں تجھ پر قربان تو کس قدر وفادار ہے

در مصائب در حوادث ہائے زار پتو کھر بر من تنگ شد از درد کار

مصیبتوں میں اور عاجز کرنے والے حوادث میں جبکہ درد کا وجہ سے مجھ پر معاملہ تنگ ہو گیا

یار و خویشاںم مرا بگزار دند نار در دست غم بسیار دند

اپنوں اور دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا مجھ عاجس کو غم کے ہاتھوں میں سے دیا

جز تو کے دیگر دران سختی رسد در متاعبہا تو گشتی مدد

اس سختی میں تیرے علاوہ کوئی کب پہنچتا ہے تو جلد پہنچا تو نے مجھے بکڑ لیا

در رسیدی زود بگرفستی مرا وا خریدی از ہمہ سختی مرا

تو جلد پہنچا تو نے مجھے بکڑا مجھے تمام سختیوں سے رہا کر دیا

بچوں شمارم من ز احسان تو چوں گرزبان ہر موشود لطفت فنون

میں تیرے احسان کیسے شمار کروں کیونکہ اگر ہر بال زبان بن جائے تیری ہر بانی بڑھی ہوئی ہے

شکر احسان ترا چوں سر کنم اندر میں راہ گو قدم از سر کنم

تیرے شکر اور احسان کو کیسے انجام دوں اس راستہ میں اگرچہ سر کو قدم بنا دوں

جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست جملہ از در ہائے احسانت پرست

جان اور کان اور آنکھ اور ہوش اور ہاتھ پاؤں سب تیرے احسان کے موتیوں سے پڑے ہیں

ایں کہ شکر نعمت تو مے کنم ایں ہم از تو نعمتے شد منتقم

یہ کہ میں تیری نعمت کا شکر یہ ادا کرتا ہوں یہ بھی تیرے کا ایک منتقم نعمت ہے

شکر ایں شکر از کجا آرم بجا من کیم از تست تو فیق اے خدا

اس شکر کا شکر یہ کہاں سے بجلاؤں میں کون ہوتا ہوں اے خدا تو فیق تیری جانب سے ہے

ایڈمن

محمد طلحہ نذیر



صِيغَةُ قِرَائِي

- ١- سَلَامٌ عَلَى عِبَادِي الَّذِينَ اصْطَفَا
- ٢- سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

جهل حديث مشتمل برصلاة سلام

صِيغَةُ صَلَاةٍ

- ١- حَيْثُ أَوَّلُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ
أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ.
- ٢- اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَى الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ
الْشَافِعَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنِّي رِضًا لَا تَسْمَعُ
بَعْدَهُ أَبَدًا.
- ٣- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالسُّلَمِيِّينَ وَالسُّلَمِيَّاتِ.
- ٤- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ.
- ٥- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

٤- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ وَبَارِكْ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

٥- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

٨- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ
وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

٩- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ

١٠- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١١- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١٢- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١٣- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١٤- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١٥- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ -

١٦- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ تَرَحُّمًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحُّمْتَ
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ تَحَنُّنًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 سَلَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مَّجِيدٌ -

١٧- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
 وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا
 وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
 حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -

١٨- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ -

١٩- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مَّجِيدٌ -

٢٠- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
 الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

٢١- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ
 الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
 آلِ مُحَمَّدٍ صَلَواتَكَ تَكُونُ لَكَ رِضَى وَلَهُ جِزَاءٌ وَ
 لِحَقِّهِ أَذَاءٌ وَأَعْظَمُهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَ
 الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ عَنَّا
 مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا جَارَيْتَ نَبِيًّا عَن
 قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَن أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ
 مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

٢٢- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ
 عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ .

٢٣- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا
 مَعَهُمُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ
 بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَواتُ اللَّهِ وَصَلَواتُ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ .

٢٣- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 مُجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
 ٢٥- صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

صِنْعُ السَّلَامِ

٢٦- التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ
 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا
 وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
 اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 ٢٧- التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ
 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا
 وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
 وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
 ٢٨- التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ
 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا
 وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
 اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

٢٩- التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-

٣٠- بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ
الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ النَّارِ-

٣١- التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الذَّاكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ
بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-

٣٢- بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ
نَذِيرًا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَاهْدِنِي-

٣٣- التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

٣٢- بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ
أَسْلَامٌ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ شَهِدْتُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدْتُ أَنْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

٣٥- التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

٣٦- التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

٣٧- التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

٣٨- التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

٣٩- التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ بِاللهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -
٤٠- بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ -

اثر موقوفه

١- اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَدْحُوتِ وَبَارِي الْمَسْمُوكَاتِ وَجِبَارِ
الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَفِيهَا وَسَعِيدِهَا اجْعَلْ شَرَأْفَ
صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْمُخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ
الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلَقَ وَالْمُعِينِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالذَّامِعِ
بِمَحِيضَاتِ الْإِبَاطِيلِ كَمَا حَبَّلَ فَأَضْطَلَمَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ
مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ بِغَيْرِ نَجْلِ عَنْ قَدِيمٍ وَلَا وَهْنٍ
فِي عَزْمٍ وَأَعْيَا لِيُوحِيكَ حَافِظًا لِعَمْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى
نِفَارِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قُبْسًا لِقَابِي إِلَّا اللهُ تَصَلِّ
بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ بِهِ هُدَيْتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ
الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَمُنِيرَاتِ
الْإِسْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْهَامُونَ
وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونِ وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ
وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً اللَّهُمَّ افْسَحْ

لَهُ مَفْسَحًا فِي عَذَابِكَ وَأَجْزَلًا مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ
 فَضْلِكَ مُهَنَاتٍ لَهُ عَيْرٍ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ وَفُورِ نَوَابِكَ
 الْمَصْعُونِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ الْمَخْرُوجِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ
 عَلَى بِنَائِهِ الْبَانِينَ بِنَاءً لَا وَ الْكِرْمَةَ وَالْأَلَا لَدَيْكَ وَنَزْلَهُ
 وَأَتَمِّدْ لَهُ نُورَهُ وَأَحْزِرْهُ مِنْ ابْتِعَاتِكَ لَهُ مَقْبُولِ
 الشَّهَادَةِ وَ مَرْضِي الْمَقَالَةِ ذَا مُنْطِقِ عَدْلِ وَخَطَةِ
 فَضْلِ وَحُجَّةٍ وَبُرْحَانٍ عَظِيمٍ.

٢- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى
 سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ
 مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ
 الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ائْتِنَاهُ مَقَامًا مَحْمُودًا
 يَغِيْطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ.

٣- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ
 وَأَزْوَاجِهِ وَوَرِيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ
 أَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَحُجَّتِهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعْلَمٌ
 أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ه



@TaleefatHakeemUIUmmatThanvi

ایڈمن
محمد طلحہ نذیر